فلسفۂ نفس

(حقیقت نفس کی ایک جدید تشریح)

مصنفہ

ضامن نقوی

مصنف آسرار ہستی و فلسفۂ خودی و شعرالحکم

الہ آباد
ہندوستانی اکیڈیمی، یو - پی
۱۹۳۲

Published by
HE HINDUSTANI ACADEMY, U. P.,
Allahabad.

FIRST EDITION :
Price { Re. 1-0-0. (Paper.)
Re. 1-8-0. (Cloth.)

Printed by
M. GHULAM ASGHAR, AT THE CITY PRESS,
Allahabad.

فہرست مضامین

عنوان مضمون صفحات

تعارف ... ... الف
(از مولانا عبدالماجد صاحب بی اے)
دیباچہ ... ... د
مقدمہ ۱

(باب اول — نفس و ماھیت نفس)

نفس ۹
ماھیت نفس ۱۰
محرک مرکزی ۱۹
کسی شے کی نفس ذات سے مراد وہ مرکزیت ھے جس سے اُس شے کے قویٰ و افعال کا نظام وابستہ ھوتا ھے ... ۲۱
نفس مادہ ۲۴
قوت شعور نفس سے وابستہ ھو سکتی ھے نہ کہ جسم سے ۲۵
عرض ، عرض کے ساتھ قائم نہیں ھو سکتا ۲۹
دو جوھر مستقل ایک دوسرے کے معلول نہیں ھو سکتے ... ... ،،
حقیقت مادہ ۳۳
نفس انسانی اور نفس مطلق ۳۵
تفریق علت و معلول ... ...حاشیہ صفحہ ،،

عنوان مضمون ... صفحات

(باب دوم — قوی و افعال نفس)

افعال نفس ۳۷
حیات ... ... ,,
نظام حیات ۴۰
موت ... ... ,,
کلیات افعال نفس، حرکت تنظیم و حرکت حیات ۴۱
قوائے نفس، قوت شعور و ارادہ ... ,,
حیات انسانی و افعال حیات انسانی ... ۴۲
نوعیت افعال حیات انسانی ... ,,
افعال ارادی و غیر ارادی ... ۴۳
افعال حیات انسانی کے دو مختلف مراکز ,,
✓ انانیت و طبیعت ۴۶
✓ ارادۂ انانیت ... ... ,,
✓ شعور انانیت ... ...حاشیہ صفحہ ,,
صراحت انواع افعال ارادی و غیر ارادی ۴۷
تفکر و تعقل ۴۸
نظام ذہنیت ۴۹
✓ حواس ۵۱
✓ ماہیت احساس ... ... ,,
✓ شرایط احساس ۵۲
✓ تفریق احساس و شعور ... ,,

عنوان مضمون ۔ صفحات
توجه نفس ۵۳
احساسات نفس ... ... ,,
قوت حافظه ۶۵
قوت انتقال ذهن ۶۶
قوت واهمه ۶۷
علم و ادراک ... ... ,,
تعرف و تعریف اشیا ۶۹
زبان هی ذریعۂ تفهم و تفهیم هے ... ۷۱
تصورات کلیه ۷۲
صحیح نتائج تک پهونچنا استقرائے کامل پر منحصر هے ... ...حاشیه صفحه۷۶
حدود علم و ادراک ۷۷
نفس انسانی و علم ۷۹
خلاصۂ بحث تعقل ۸۱
اراده ۸۲
حیات شاعره میں ... ... ,,
محرکات اراده اغراض اراده ایک حرکت نفسی هے ... ... ,,
حیات طبیعی ۸۳
اعمال تغذیه , تلمیه و تولید مثل ... ,,
قوائے ثانوی ۸۴
حرارت غریزی اور روح حیوانی یا حرارت مخفی اور حرارت ظاهری ... ,,

عنوان مضمون — صفحات

قلب کی حرکت انقباضی و انبساطی ... ۸۵
عمل تنفس و دوران خون ... ,,

(باب سوم — متعلقات نفس)

اخلاق و مبادیات اخلاق ... ۸۶
ماہیت جذبات ... ... ,,
جذبات بسیط مرکب ۸۷
نوعیت جذبات ۸۸
نوعیت اغراض ... ... ,,
سبب اختلاف اعمال ۸۹
ماہیت اخلاق ۹۰
اخلاق ملکات نفس ہیں ... ,,
نوعیت اخلاق ... ... ,,
تفصیل جنس اخلاق یعنی تقسیم اخلاق ۹۱
عادات ۹۳
معیار اخلاق ۹۵
مقصد حیات قیام حیات بغرض ...
حق شناسی ۹۶

(باب چہارم — بعض معارف نفسیات)

ارتقائے نفس ۹۸
اولین تعین صورت و جسامت ایتھر،
اثیر، افلاک، آکاش ... ,,
ادراک بلاواسطہ ۱۰۱

عنوان مضمون صفحات

حیات مابعد ۱۰۱

انسان اور کائنات ۱۰۲

غایت و نہایت ۱۰۳

خودی ۱۰۴

من عرف نفسہ فقد عرف ربہ ... ۱۰۵

خدا ... ... حاشیہ صفحہ ۱۰۷

تعارف

نفس و مسائل نفس کی تشریح کوئی نئی چیز نہیں - ہندؤں نے ، مسلمانوں نے ، سب نے ، اپنے اپنے دور میں اس پر بہت کچھہ سوچا ، بہت کچھہ لکھا - لیکن اُس وقت ، دوسرے علوم کی طرح ، اِس کا بھی تعلق اِلٰہیات ھی سے تھا ، اور اصلاح باطن و تزکیہ روح میں اِس سے مدد لی جاتی تھی - اُس وقت اِس علم میں ایک رفعت تھی ، بلندی تھی ” ملکوتیت “ تھی ؛ اُس وقت فخر کی چیز ” کمپیریٹو سائکالوجی “ (حیوانات سے دماغی رشتہ‌داری) نہ تھی -

جدید ” علم نفس “ ایک خالص مادی علم ھے جو بلند تھا ، اُسے پست کر دیا گیا ، علوی کو سفلی بنا دیا گیا ، ملکوت کو ناسوت کی سطح پر لے آیا گیا ؛ روح و روحانیت کے تخیل پر قہقہے لگائے گئے ، جسم و جسمانیت ، مادہ و مادیت کے بتوں کی پوجا شروع ہوئی ، فرشتوں سے مناسبت پیدا کرنے کے ذکر پر تالیاں بجیں ، کتے اور بلی ، بندر اور لنگور سے انسانی دماغ کے رشتہ جوڑنے پر فخر کیا جانے لگا اور ” حواس پرستی “ دلیل علم و حجت کمال قرار پائی !

اب مشکل یہ آن پڑی کہ کوئی کچھہ کہنا چاہے تو آخر کس زبان میں کہے ؟ غزالی و رومی ، عطار و سنائی ، رازی و طوسی کے رنگ میں اگر کچھہ کہنے پر آئے تو سنیگا کون ؟ کتاب نہ چھپیگی نہ بکیگی ، بس خودھی لکھئے اور خود ھی پڑھہ پڑھکر اپنا جی خوش کر لیا کیجئے -

البتہ اگر ڈارون اور ھکسلی ، ونت اور ریبو ، ولیم جیمس اور لائڈ مارگن کی بولی بولنے پر آ جائے تو یونیورسٹیاں بہی قدردانی کو تیار ھیں اور پبلک بھی حوصلہ افزائی کو - الہ آباد کے مہر ظریف اکبر نے اِسی منظر کی مصوری سالہا سال ہوئے کر دی تھی -

" مرزا " غریب چپ ھیں ، انکی کتاب " ردی "
" بدھو " اکڑ رہے ھیں ، " صاحب " نے یہ کہا ھے !

جناب ضامن ، مستحق مبارکباد ھیں کہ اُنھوں نے جدید و قدیم ، دونوں راستوں سے ھٹ کر ، اپنے لئے ایک نئی روش نکالی - وہ کتابوں کے عالم ھوں یا نہ ھوں ، صحیفۂ فطرت کے متعلم ضرور ھیں - اُنھوں نے خود اپنے کو پڑھا ، اپنے نفس کا مطالعہ کیا اور اِس سے جو کچھہ سمجھے ، اُسے اب دوسروں کو سنائے دیتے ھیں - وہ اگلوں اور پچھلوں کی کوششوں سے ناواقف نہیں ، اُن کی نظر میں ماضی بھی ھے اور حالی بھی ، اُن کے دماغ میں اگلوں کے مراقبے بھی ھیں اور پچھلوں کے مشاھدے بھی - تاھم وہ جو کچھہ بھی کہہ رھے ھیں وہ سنی سنائی باتیں نہیں ، اُن کی آنکھوں کے دیکھے ہوئے منظر ، اُن کے قلب پر گذرے ہوئے واردات ھیں - قلندر کی تعریف میں کہا گیا ھے ، " قلندر ھر چہ گوید دیدہ گوید " - ضامن صاحب ، قلندر ھوں یا نہوں ، لیکن یہ شان قلندری تو اُن میں پوری طرح موجود ھے -

یہی سبب ھے کہ اُن کی کتاب قصص و حکایات کا مجموعہ نہیں ، بصیرت زا ، بصیرت افزا ، بصیرت افروز ھے ، بہت ھی اھم حقیقتوں کی حامل ھے اور اگر غور کرکے پڑھی جائے تو عرفان نفس کی اچھی خاصی ھادی و معلم ھے اور اپنے مصنف کی مجتہدانہ شان پر ایک دلیل روشن و برھان واضح -

مصنف آخر مشرقی ھیں ، اُن کی مشرقیت اُن پر غالب ، اُن کی اسلامیت کا رنگ اُن کی تصنیف میں نمایاں اور اُن کی " خود شناسی " " خدا شناسی " کا مقدمہ - لیکن ساتھہ ھی ذوق مغربی سے بھی بیگانہ نہیں - خود " اھل معنی " ھیں مگر " سخن آرائی " کی ضرورت و اھمیت سے بھي بیخبر نہیں - جانتے ھیں کہ " بزم " میں " اھل نظر " سے کہیں زیادہ ، نرے " تماشائی " بھرے ھوئے ھیں ، دونوں کے مذاق کی رعایت موجود - دعا ھے کہ اُن کی کوشش و کاوش بارور ھو اور تصنیف کو خلق میں اور خود مصنف کو خالق کے ھاں مقبولیت نصیب ھو -

(دریاباد ، بارہ بنکی
۲۲ نومبر ۱۹۳۰ء

عبدالماجد

حامداً و مصلیاً

دیباچہ

یہ مسلم ھے کہ حیات اور کشاکش کا کچھ ایسا ناقابل انفکاک تعلق ھے کہ ایک کا تصور بغیر دوسرے کے ھو ھی نہیں سکتا، مگر اِس کے ساتھ یہ بھی ماننا ھوگا کہ اِس کشاکش حیات کے کچھ مدارج بھی ھیں، کہیں تو یہ نزاع صرف مشغلۂ حیات ھے اور کہیں سخت صبرآزما۔ اِس لئے اگر اطمینان دل و پریشانی، جمعیت خاطر و انتشار، متضاد کیفیات نفس کی تفریق انہیں درجات مختلفہ کے امتیاز سے وابستہ سمجھی جائے تو بعید از قیاس نہ ھوگا۔

افکار معیشت کا شمار بھی کشاکش حیات کے اُنہیں درجات ارتقائی میں کیا گیا ھے جو سخت صبرآزما ھیں، اس لئے اگر کوئی رہنورد منازل حیات ھنوز اِسی مقام ابتلا میں ھو تو سمجھ لینا چاھئے کہ وہ منزل جمعیت خاطر و اطمینان دل سے یہ مراحل دور ھے۔

مگر مشغلہ تصنیف و تالیف تو بڑے فراغ کا مقتضی ھے گویا کہ پریشانی اور تصنیف دو ایسے متضاد کلی ھیں جو بیک جا جمع ھی نہیں ھو سکتے۔

نظریۂ بالا کے خلاف، اس کتاب کي تدوین، ایک استثنا ھے جو حقیقتاً تائید ایزدی ھي پر مبنی ھے۔ اگر اس ضمن میں علل و اسباب کی تشریح و توضیح مطلوب ھو تو یہ کہا جا سکتا ھے کہ دنیا عالم اسباب

ھے ، کچھ ثانوی اسباب بھی ھوا کرتے ھیں - شغف ، کسی کام کی دھن ، جسے جلوں ذھنیت ھی کہنا چاھئے ، ایک ایسی کیفیت نفسی ھے جو تمام تاثرات و جذبات پر چھا جاتی ھے - انسان کسی دھن میں ھو تو نہ تو کسی پریشانی کا احساس ھوتا ھے نہ کسی تکلیف کی پروا -

یہی وہ شغف تھا جس نے دس مہینے ایسے انہماک میں رکھا ، جسے انہماک کے بجائے استغراق ھی کہنا زیادہ موزوں ھوگا - اور یہی استغراق وہ افکار شہود کا سمندر تھا جس میں ڈوب جانا گویا کہ ساحل مطلوب کو پا لینا تھا - واقعتاً یہ ھے کچھ افسانۂ تصنیف ، اِسی سے حالات و مشکلات کا اندازہ کیجئے -

مقصود تصنیف تو یہی ھے کہ یہ رسالہ مسائل علم نفس میں ذھن کی صحیح رھنمائی کرے ، مگر میں بطور خود اس امر کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اِس رسالہ سے کہاں تک یہ مقصد حاصل ھو سکتا ھے - بہر حال ، الاعمال بالنّیات ، مدعائے گذارش و نگارش تو جادۂ حقیقی کی طرف توجہ دلانا ھی ھے -

اسلوب بیان کے متعلق اِتنا عرض کر دینا کافی ھے کہ عبارت میں حتی الامکان سلاست کا لحاظ رکھا گیا ھے مگر بایں ھمہ ایک علمی کتاب کو کسی طرح افسانہ نہیں بنایا جا سکتا - مجبوراً اصطلاحی الفاظ لانے ھی پڑتے ھیں اور اسلوب بیان کو علمی حدود میں رکھنا ھی پڑتا ھے -

قارئین کتاب سے صرف اِس قدر گذارش ھے کہ اول ایک مرتبہ شروع سے آخر تک کتاب کو ٹھنڈے دل سے پڑھ جائیں ، اُس کے بعد کوئی رائے قائم فرمائیں - اگر دوسری یا تیسری مرتبہ دیکھنے کے بعد رائے قائم کی

جائیگی تو وہ نسبتاً زیادہ صائب ہوگی ، ورنہ اِس قسم کے مضامین خواہ وہ کتنے ہی آسان پیرایہ میں پیش کئے جائیں پھر بھی ایسے نہیں ہوتے کہ سرسری طور پر ورق گردانی ہی سے سمجھہ میں آ سکیں اور پڑھنے والا کسی صحیح نتیجہ تک پہونچ سکے -

آخر میں مجھے مکرمی مولوی شفقت حسین صاحب بی - اے ، ایل ایل - بی ، ایڈوکیٹ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ نے دوران تدوین کتاب میں ، بعض قابل لحاظ مشورے تدوین کتاب کے متعلق دئیے -

ضامن حسین نقوی (' گویا ' جہان آبادی)

پیلی بھیت ، یوم دوشنبہ
۲۲ ستمبر سنہ ۱۹۳۰ع

مقدمہ

ستارے شام سے روزانہ ظاھر ھونا شروع ھو جاتے ھیں اور رات بھر جگمگاتے رھتے ھیں، سورج ھر روز صبح سے نکلتا ھے اور دن بھر ھماری نگاھوں کو منور رکھتا ھے، ھوا برابر چلتی ھی رھتی ھے، موجوں کی مسلسل روانی، خاک کا محل حوادث ھونا، آگ کا اشتعال، سیاروں کی سیر، زمانہ کا دور، رات دن کی انقلاب، کائنات کے تغیرات، عالم کون و فساد کا نظامِ فساد و اتحاد، کہ رھا ھے کہ یہاں ھر شے کا ایک کام مقرر ھے، ھر شے کی کوئی علت غائی ھے، ھر شے کسی لئے ھے۔

لیکن انسان، کس لئے ھے، اس کا فرض کیا ھے، اسے کیا کرنا چاھئے؟—

اپنے فرائض عمل کا تعین، کوئی معمولی بات تو نہیں؛ یہہ معلوم کرنے کے لئے کہ ھمیں اس کائنات میں رھکر کیا کرنا چاھئے، یہ واضح طور پر معلوم ھونے کی ضرورت ھے کہ ھمارا امتیاز اس کائنات میں کیا ھے— اس تمیز و تفریق کے لئے ایک تفصیلی نظر وہ بھی ایک خاص اصول سے تمام کائنات گرد و پیش پر ڈالنا ھوگی—

کائنات کی وسعت کا یہ عالم ھے کہ اگر فرداً فرداً یہاں کی تمام چیزوں کا شمار کیا جائے تو ھزاروں سال بھی ناکافی ھیں، اس لئے سمجھنے سمجھانے کی غرض سے، یہاں کی چیزوں میں درجہ‌بندی کی گئی ھے، عناصر کا شمار، [۱] بسائط میں کیا گیا ھے اور باقی عنصری

---

[۱] بسائط وہ چیزیں ھیں جن کی تقسیم مختلف‌الکیف ماھیتوں میں نہ ھو سکے، مثلاً ریڈیم اور فولاد کہ ان کا ھر جزو وھی خصوصیت رکھتا ھے جو خود ریڈیم و فولاد کا امتیاز ھے۔

چیزوں کو مرکبات کے درجہ میں رکھا ہے اور پھر مرکبات کی تقسیم موالید ثلاثہ یعنی جماد و نبات و حیوان میں کی ہے ' اس طرح اس دریا کو کوزے میں بند کیا ہے —

ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ انسان کا امتیاز اس کائنات میں کیا ہے ' اس غرض کے لئے ہم موالید ثلاثہ ہی سے اپنی تلاش کی ابتدا کرتے ہیں کہ اس دنیا کی' جس میں ہم بستے ہیں' بڑی کائنات یہی چیزیں ہیں —

سب سے پہلے جمادات کو دیکھئے' جمادات کتنے ہی انواع پر منقسم ہوں ' سنگ مرمر ہو یا سنگ سیاہ' یشب ہو یا الماس ' ان سب کا امتیاز ' وزن جسامت اور شکل خصوصیات جسمانیہ ہی آپ پائینگے . اس کے بعد نباتات کو دیکھئے' اِن میں جسامت کے ساتھ ساتھ نمو (بالیدگی) کے مظاہر بھی نظر آئینگے — اور یہی نمو نباتات کا امتیاز ہے — اس کے بعد حیوانات پر نظر ڈالئے - ان میں جمادات کے مثال جسامت بھی ہے اور نباتات کی طرح نشو و نما بھی — مگر اس کے سوا احساس و حرکت ارادی کا وجود بھی آپ حیوانات میں پائیںگے - اور یہی ان کا امتیاز ہے اور اسی امتیاز کے لحاظ سے وہ حیوان یعنی زندہ کہے جاتے ہیں — آخر میں انسان کی باری ہے - یہ موالید ثلاثہ کي آخری حد پر ہے اور اسی پر کائنات کی تمام سعي نشو و ارتقا ختم ہوتی ہے ' اس میں جسامت بھی ہے ' نشو و نما بھی اور احساس و حرکت ارادی بھی گویا کہ موالید ثلاثہ خلاصۂ کائنات اور انسان ' خلاصۂ موالید ثلاثہ ہے ' لیکن وہ شے جو موالید ثلاثہ کی کسی جنس میں کیا کائنات کی کسی شے میں نہیں پائی جاتی' وہ اس کا امتیاز خصوصی ادراک ہے اور یہی انسان کا

شرف ھے اور اسی شرف کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات ھے اور اسي لحاظ سے ھمارے نزدیک انسان کی تعریف، ھستی مدرک زیادہ موزون ھے ۔

اس تفصیل سے آپ اتنا تو سمجھ ھی گئے ھونگے کہ جو امتیاز جس شے کا ھے، وھی امتیاز اُس شے کی علت غائي ھے، [۱] اگر حیوان کا امتیاز خاص، احساس و حرکت ارادی ھے تو یہی امتیاز ان کے وجود کی علت غائی ھے ۔ اسی پر انسان کو قیاس کیجئے کہ اُس کا امتیاز خصوصی کیا ھے، یہیں سے اُس کے فطری فریضۂ عمل کا تعین ھوتا ھے اور معلوم ھوتا ھے کہ اُسے کائنات میں رھکر کیا کرنا چاھئے ۔

انسان نے جب اس دنیا میں آنکھ کھولی، تو سب سے پہلی چیز جو اس کے روبرو آئي وہ خود اس کی ھستی ھی تھی، اس لئے اپنے امتیاز ذاتی کي بنا پر، سب سے پہلے اُسے اپنے ھی متعلق یہ خیال ھونا چاھئے تھا کہ میں کیا ھوں، یعنی کہ میری ھستی کی حقیقت کیا ھے ؟

یہ کوئي معمولی سوال تو نہ تھا کہ آسانی سے حل ھو جاتا، فلسفیانہ جدوجہد صرف اسی استفہام فطرت کی رھین منت ھے، حقیقت یہ ھے کہ انسان نے اس تلاش میں بڑی دقت نظر سے کام لیا، اپنی

---

[۱] علت غائی - ھر شے کے متعلق یہ سوال ھو سکتا ھے کہ :

اُسے کس نے بنایا ھے، کس شے سے بنایا ھے، کس لئے بنایا ھے ؟ اس طرح علت کی تین قسمیں ھو جاتی ھیں علت فاعلی، علت مادی، علت غائي - علت غائی سے وہ غرض مراد جس ھے کے لئے کوئی شے بنائی جائے مثلاً قلم کی علت غائی تحریر ھے، اور یہی اُس کا دوسری چیزوں میں امتیاز ھے -

مفسر معارف آلہیات ھے ۔ اسلئے

اگر آپ اپنی زندگی کا مقصد وحید معلوم کرنا چاھتے ھوں ،
اگر آپ اپنی زندگی کو کامیاب و کار آمد بنانا چاھتے ھوں ،
اگر آپ مخفیات حیات تک پہونچنا چاھتے ھوں ،
اگر آپ اسرار کائنات سے واقف ھونا چاھتے ھوں ،
اگر آپ معلوم کرنا چاھتے ھوں کہ آپ کا اس کائنات میں کیا مرتبہ ھے ،
اگر آپ سمجھنا چاھتے ھوں کہ آپ کیا ھیں ،
اگر آپ معلوم کرنا چاھتے ھوں کہ آپ کے فرائض کیا ھیں ،

تو فلسفۂ نفس کا مطالعہ، نفسیات [ا] کی رھنمائی، علم نفس کی قدر ، ناگزیر ھے ۔

فرائض اخلاق و اعمال کا صحیح علم ھو ھی نہیں سکتا ، اگر ھم مقصد حیات سے بے خبر ھیں اور مقصد حیات کا علم مبنی ھے حقیقت حیات کے علم پر اور حقیقت حیات تک رسائی بغیر واسطۂ [ا] نفسیات دشوار ۔

عام طور پر آج جو اخلاقی اور پھر عملی تنزل رونما ھے، اس کا بڑا سبب ھمارے نزدیک یہی ھے کہ ھم حقیقت نفس سے بے خبر ھیں ۔ اس لئے وہ صحیح احساسِ اعزازِ نفس جو باخبر انسان میں ھونا چاھئے ھم میں نہیں ھے ، اپنا وہ مرتبہ اور اپنی وہ حیثیت جو بحیثیت انسان ھونے کے ھمیں اس کائنات میں حاصل ھے نہیں پہچانتے ۔ برخلاف اس کے اپنی ذات یا نفس کے متعلق یہ گمان ھے کہ وہ ایک فانی شے ھے، بعد موت کوئی اثر اُس کا نہیں رھتا ۔ اس لئے متعلقات نفس

[ا] نفسیات سے ھماری مراد علم نفس ھی ھے ۔

یعني اخلاق و اعمال کا بھی کوئی نتیجه مابعد نہیں ـ زندگی هی کے سب جھگڑے یہیں اور یہیں ختم هو جاتے هیں ـ

غیر تعلیم‌یافته تو بر بنائے جہل اس پستی میں مبتلا هیں اور تعلیم‌یافته جماعت کو سائنس کے اس نظریه نے حقیقت سے دور کر دیا هے که کائنات میں جو کچھه هے، ماده هے اور اُس کی قوت هے، نفس وغیره کا بھی کوئي جداگانه وجود نہیں، ترکیب عناصر سے ایک کیفیت پیدا هو جاتی هے جو اثر ترکیب کے زائل هوتے هی فنا هو جاتی هے۔ ماده اور اس کی قوت تو ایک باقی شے هے، باقی جو کچھه هے سب فانی هے ـ

ظاهر هے که جب همارا اپنے نفس هی کے متعلق یه گمان هوا اور اپنی ذات هی کو اس قدر غیروقیع سمجھتے هوں، تو میں کوئی صحیح احساس اعزاز نفس کیوں‌کر پیدا هو سکتا هے، اپنی کوئی خاص ذمه‌داری باعتبار اخلاق و اعمال کیوں‌کر سمجھه سکتے هیں، همارا نصب‌العین اعلیٰ اور معیار اخلاق کیونکر بلند هو سکتا هے؟ یہی سبب هے که همارا معیار اخلاق پست‌تر هوکر، صرف خودغرضی پر مبني ره گیا هے ـ

ضرورت هے که مسائل نفسیات [۱] کی تشریح و توضیح اس طرح کي جائے که حقیقت نفس ایک زنده اور موجود شے کي طرح متعین هو جائے ـ اگر ایسا هو جائے تو معیار اخلاق کی بلندی اور نصب‌العین کی تبدیلی تو اس کا ایک لازمی نتیجه هوگی ـ

یه تو سب کچھه مسلم، لیکن هم اور مسائل علم نفس ــــ هم اور اس قسم کی ــــ اهم تصنیف! وما توفیقی الا باللہ ـ

---

[۱] نفسیات سے هماری مراد علم نفس هی هے۔

اس مضمون (کتاب) میں ، زیادہ‌تر صحیفۂ [۱] فطرت ہی سے استفادہ کیا گیا ہے، اس لئے ہم بفضلہ اور کسی مصنف کے بہت کم رہین منت ہیں، اور اس کی چنداں احتیاج بھی نہیں کہ مشاہدۂ ذات میں بھی انسان یکسر رہین رہنمائی ہو، زندگی کے مختلف مدارج و مظاہر ہر شے سے بالعموم اور انسان کی ذات سے بالخصوص، آفتاب کی طرح نمایاں و درخشاں ہیں ، اس لئے اس راہ میں خود انسان کی ذات ہی، اس کے لئے، رہنمائے اعظم ہے مگر بات اتنی ہی ہے کہ انسان ذرا آنکھ کھولے اور بصیرتِ نفس سے کام لے -

یہی سبب ہے کہ ہم نے اپنے افکار میں اس کا بالکل لحاظ نہیں رکھا کہ وہ کہاں تک ، مصنفین قدیم و جدید علم نفس کی آرا کے موافق ہیں —

ہمارا موضوع بحث، اس کتاب میں ، نفس انسانی [۲] ہے اور مبادیات

---

[۱] صحیفۂ فطرت ، کتاب فطرت ، کتاب الہٰی ، مراد اِس سے یہاں نفس انسانی ہے -

[۲] نفس انسانی کے معنی ہیں انسان کی حقیقت ، اصل ہستی - اصل ذات کے ، حالت شعور میں جس کو ، لفظ "ہم" یا "میں" سے ہر شخص تعبیر کرتا ہے ، اِسی تصور شخصیت "ہم" یا "میں" کو عربی میں آنا اور انگریزی میں اِگو (Ego) کہتے ہیں - عربی میں نفس انسانی کا مفہوم کو ادا کرنے کے لئے الفاظ نفس ناطقہ اور صورت نوعیہ انسانیہ بھی ہیں ، مگر محل استعمال میں کسی قدر فرق ہے - جب انسان کے افعال تعقل و ادراک سے بحث کی جاتی ہے تو اِن افعال کا انتساب نفس ناطقہ سے کیا جاتا ہے - یعنی نفس ناطقہ مبدا ان افعال کا سمجھا جاتا ہے اور جب اعمال تشکیل و تکمیل نظام جسمانی سے بحث کی جاتی ہے تو صورت نوعیہ کو ان کا سبب قرار دیا جاتا ہے اور یہ سب اعتباری امور ہیں ورنہ حقیقت میں نفس انسانی ہی اختلاف اعمال کی بنا پر مختلف ناموں سے موسوم ہے اور اس طرح نفس ناطقہ اور صورت نوعیہ مختلف قوتیں نہیں -

قویٰ و افعال نفس انسانی ، ترتیب ابواب یوں ھے کہ اول نفس و قویٰ و افعال نفس پر بحث ھے بعدہ متعلقات نفس، اخلاق و اعمال پر اور اسی کے متعلق کچھہ ضمنی مسائل ھیں اور آخر میں بعض معارف نفسیات -

بیان و زبان کے متعلق اب ھمیں اور کچھہ کہنا نہیں ھے، کتاب آپ کے روبرو ھے -

باب اول

نفس و ماهیت نفس

نفس

بعض اوقات ، کسی مایوس‌کن خبر کے سننے هی سے طبیعت سست ، دل مغموم ، چهرہ اُداس هو جاتا هے - اب سوال یہ هوتا هے کہ اس خبر کا اثر، کس نے قبول کیا ، آیا اعضا و جوارح [۱] نے یا عناصر جسمانی [۲] نے ؟

هم کوئی خوش خبری سنتے هیں ، چهرہ فوراً چمک اُٹهتا هے - دوران خون تیز اور تنفس عظیم هو جاتا هے ، اس صورت میں بهی یہی سوال هوتا هے کہ خبرِ خوش کا اثر کس نے قبول کیا ، آیا اعضا و جوارح نے یا خود مادۂ جسمانیہ نے ؟

هم کوئی کام کرنا چاهتے هیں تو کرتے هیں اور ترک کرنا چاهتے هیں تو چهوڑ دیتے هیں ، دیکهنا یہ هے کہ همارے اِن اِرادوں کا تعلق اعضا و جوارح سے یا اِن کی مصدر کوئی ذی اختیار هستی هے ؟

تمام ذهنی قوتوں کی مثال آلات کی سی هے - اب سوال یہ هے کہ ان آلات سے کام لینے والا کون هے ، اور نتائج فکر سے فائدہ کون اُٹهاتا هے ؟

تمام جسم کی حیثیت مشین کی سی هے ، کیا کوئی مشین بغیر کسی ڈرائیور کے ، کسی مقصد واحد کے ماتحت کام کر سکتی هے ؟

---

[۱] اعضا ، دل ، دماغ ، جگر ، طحال معدہ ، شرائیں ، اوردہ وغیرہ هیں اور جوارح هاتهہ پاؤں ، ناک ، آنکهہ وغیرہ -

[۲] عناصر جسمانی ، جن سے جسم مرکب هے ، آکسیجن ، هائیڈروجن ، نائٹروجن ، کاربن ، سلفر ، لوها ، فاسفیٹ ، پوٹاسیم ، اور میگنیشم وغیرہ هیں -

اصل یہ ہے کہ ہمارے روزمرہ کے تجربات اور مشاہدات اس امر پر شاہد ہیں کہ ہمارا کوئی وجود علاوہ اعضا و جوارح کے بھی ہے اور اس قسم کے مشاہدات کے علاوہ سب سے بڑا اس امر کا ثبوت کہ اِس نظام جسمانی میں ہمارا کوئی ممتاز وجود ہے، یہ ہے کہ ہمیں براہ راست، ہر لمحہ اپنے ہونے کا شعور ہے، ہم سمجھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ ہم ہیں اور ہماری کوئی ممتاز ہستی ہے، اس لئے، اِس طرح تو نفس کے وجود سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔

لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ نفس ہے کیا، اُس کی ماہیت کیا ہے، مادی ہے یا غیرمادی، عرض ہے یا جوہر، فانی ہے یا غیرفانی اور اگر غیرمادی ہے تو اس کا مادے سے کیا تعلق ہے؟

اگر ہم کو ماہیت نفس معلوم ہو جائے تو اس قسم کے جملہ شبہات کا ازالہ جو وجود نفس کے متعلق پیدا ہو سکتے ہیں خود بخود ہو جائے۔

ماہیت نفس

جب ہم کسی شے کے متعلق یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو بعض اوقات ہمارا اس سوال سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ شے کائنات کی کس جنس [۱] میں داخل ہے یعنی درخت ہے یا پتھر اور کبھی اُس کی نوع [۲] کے متعلق سوال ہوتا ہے کہ یہ درخت ہے تو کون سا درخت

---

[۱] اصطلاح میں جنس وہ ہے جس کے تحت میں بعض انواع ہوں۔

[۲] نوع وہ ہے جس کے تحت میں چند صنف ہوں، حیوان جنس ہے کہ اس میں انسان اور تمام انواع کے جانور داخل ہیں اور انسان نوع ہے کہ اس کی تحت میں بہت سی صنفوں کے انسان، افریقی، چینی، جاپانی، داخل ہیں۔

ھے آم ھے یا جامن اور پتھر ھے تو کس قسم کا سنگ مرمر ھے یا سنگ سیاہ - بعض اوقات اُس شے کے خصوصیات ذاتی دریافت طلب ھوتے ھیں - یعنی اِس شے کا ھمارے احساس پر کیا اثر پڑتا ھے ، یہ شے کڑوی ھے یا میٹھی ، سرد ھے یا گرم ، سخت ھے یا نرم - اور کبھی یہ معلوم کرنا ھوتا ھے کہ اس شے کا دوسری اشیا پر کیا اثر پڑتا ھے اور کبھی اُس شے کے اجزائے ترکیبی معلوم کرنا ھوتے ھیں -

کسی شے کے رنگ ، بو ، ذائقہ ، حرارت ، برودت ، سختی ، نرمی اور جسامت کا احساس تو ھم اپنے حواسوں ھی سے کر لیتے ھیں - لیکن کسی نئی شے کے متعلق یہ معلوم کرنے کے لئے کہ یہ کس جنس و نوع میں داخل ھے ، اس کا دوسری اشیا پر کیا اثر پڑتا ھے یا اس کے اجزائے ترکیبی کیا ھیں ، کافی غور و فکر اور وسیع تجربہ و مشاھدہ کی ضرورت ھے -

لیکن ھماری ذات یا ھمارا نفس اُن چیزوں میں داخل نہیں ھے کہ جن کے متعلق اِس قسم کے سوالات ھو سکتے ھیں - نفس کو کس جنس و نوع میں داخل کیا جا سکتا ھے کہ جب کائنات میں کوئی شے اُس کی طرح نہیں ، نہ وہ ایسی شے ھے کہ جس کا احساس حواس کر سکیں نہ وہ اور کسی طرح محسوس ھو سکتا ھے نہ مشہود ، نہ اُس کی کوئی شکل ھے نہ صورت ، نہ اُس میں کوئی وزن ھے نہ مقدار ، نہ وہ کوئی قوت بجلی کی طرح ھے نہ بھاپ کی مانند ، نہ سپید ھے نہ سیاہ ، نہ کیفیت ھے نہ حالت ، نہ اُس کا تجزیہ ھو سکتا ھے نہ تحلیل -

حقیقت یہ ھے کہ کائنات میں بعض چیزیں ایسی بھی ھیں کہ جن

کی نہ تو کوئی [۱] منطقی تعریف ہو سکتی ہے اور نہ وہ ہمارے براہ راست مشاہدے کے حدود میں داخل ہیں، مگر ہمیں ضرور، ہمیں اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اُن کا کوئی نہ کوئی وجود ہے - اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایسی چیزوں کا علم کیوں کر ہوا ؟

معلول کو دیکھکر علت کا خیال آ جاتا ہے، حرکت کو دیکھکر متحرک کے وجود کا قائل ہو جانا، تصویر سے، مصور کے وجود پر استدلال کرنا سیاروں کے نظام کو دیکھکر قوت کشش و تنظیم کا اعتراف کرنا، خلاف قیاس نہیں - ایک بچا بھی یہ نہیں مان سکتا کہ کوئی شے خود بخود متحرک ہو سکتی ہے - یا کتابیں جو الماریوں میں سلیقہ سے چنی ہوئی ہیں خود بخود اس طرح، اس ترتیب سے مرتب ہو گئی ہونگی یا کسی لایعقل کا یہ کام ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے روزمرہ کے تجربات میں یہی قوانین فطرت جاری و ساری دیکھے ہیں - اس لئے اب بغیر فکر و تامل یہی سمجھتے ہیں کہ حرکت، متحرک سے، معلول، علت سے، اور ہر تنظم کسی ناظم عاقل سے وابستہ ہوتی ہے - گویا کہ یہ [۲] نظریات

---

[۱] منطقی تعریف، کسی شے کی جنس و فصل بیان کرنا مثلاً انسان کی تعریف، حیوان ناطق کرنا، اس میں حیوان جنس اور ناطق فصل ہے اور منطق میں یہی اصول کسی شے کی ماہیت معلوم کرنے کا ہے کہ اُس شے سے اُس کے اعراضِ شخصی و انفرادی جدا کرکے اُسے دیکھا جائے، اعراضِ شخصی و انفرادی حذف کرنے کے بعد جو کچھ باقی رہ جائے وہی اُس شے کی ماہیت ہے، مثلاً زید سے وہ تمام امتیازات حذف کرنے کے بعد جن کی بناپر وہ زید سمجھا جاتا ہے، زید کو دیکھا جائے تو وہ مطلق حیوان ناطق رہ جاتا ہے - یہی زید کی ماہیت ہے -

[۲] نظریات وہ امور ہیں جن کے سمجھنے میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے -

ہمارے لئے اب بدیہات [۱] ہو گئے ہیں - ہم کسی طرح یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ کوئی نظام بغیر کسی ناظم عاقل کے خود بخود قائم ہو سکتا ہے ' ہم جانتے ہیں کہ کوئی حرکت بغیر محرک پیدا نہیں ہو سکتی ' معلول کا وجود علت سے وابستہ ہوتا ہے ' چاہے علت محسوس و مشہود ہو یا نہ ہو - ایتھر (اثیر) کے ہم صرف اس بنا پر قائل ہیں کہ اگر سورج اور ہم میں کوئي درمیاني واسطہ نہ ہوتا ' تو سورج کی کرنیں ہم تک نہ پہونچ سکتیں ' حالانکہ ایتھر ' محسوس ہے نہ مشہود -

ہم کو اپنے نفس کا علم بھی اُسی طرح ہوا کہ ہم بدیہي طور پر تمام نظام حیات میں نفس کی تدابیر و تصرفات دیکھتے ہیں اگر نفس کو اس نظام سے ایک لحظہ کے لئے بھي جدا کرکے ہم یہ تصور کر سکتے کہ یہ نظام قائم رہ سکتا ہے ' تو ہمیں یہ خیال ہو سکتا تھا کہ اس نظام میں نفس کي کوئی ضرورت نہیں ' مگر ہم ایک لحظہ کے لئے بھي ایسا خیال نہیں کر سکتے ' اس لئے ہم کو یقین واثق ہے کہ اس نظام جسماني میں نہ صرف ہمارا یا ہمارے نفس کا کوئي وجود ہی ہے بلکہ کوئي ممتاز وجود ہے -

اس کو واضح طور پر سمجھنے کے لئے ' نظم حیات پر نظر ڈالئے - ہماری زندگی کے دو رخ ہیں ' ایک تو بالکل روشن ہے جو ہر وقت ہمارے علم میں ہے ' اور اُسے اِسی لئے ' حیات شاعرہ یعنی شعور والي زندگی کہتے ہیں اور دوسرا غیر روشن ہے جس کا علم ہم کو ہر وقت براہ راست نہیں ہوتا - اُس کو حیات غیر شاعرہ کہتے ہیں - حیات شاعرہ میں '

---

[۱] بدیہات وہ امور ہیں جن کے سمجھنے میں کسی غور و فکر کے واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی - مثلاً دھوپ کو دیکھکر فوراً یہ سمجھہ لینا کہ اس وقت سورج ہے -

ہمارے تمام اعمال ارادی داخل ہیں اور غیر شاعرہ میں تمام افعال غیر ارادی - اِس تفصیل کے بعد غور فرمائیے کہ

اعمال ارادی میں تو نفس کے تصرفات بیّن طور پر ظاہر ہیں ، ہمارا چلنا پھرنا ، اُٹھنا بیٹھنا ، سوچنا سمجھنا ، کلام و سکوت اِس امر پر شاہد ہے کہ یہ تمام اعمال صرف ہماری مرضی پر منحصر ہیں - اگر تھوڑی دیر کے لئے یہ فرض کر لیا جائے کہ نفس کا کوئی وجود نہیں ہے ، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمارے اعمال میں کوئی نظام کیوں کر ہے ، جس بات کو جس طرح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم اُس کو اسی طرح کرتے ہیں - یہی نظم عمل ہے - اگر ہم سے یا ہمارے نفس سے یہ نظام اعمال وابستہ نہیں تو پھر کس شے سے ہے ؟

یہ تو ہمارے نفس کے تصرفات حیات شاعرہ میں ہیں ، اب غیر شاعرہ میں ملاحظہ فرمائیے - ذرات جسم ہر لحظہ بدلتے رہتے ہیں اور اُن کی جگہ نئے ذرے لیتے رہتے ہیں ، حتی کہ تھوڑے عرصہ میں پرانے جسم ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا اور بالکل ایک نیا جسم بن جاتا ہے - اسی عمل کو عملِ بدل ما یتحلل کہتے ہیں - اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نئے ذروں کو ہر شخص کے تشخصِ خاص میں اس طرح تبدیل کر والی کہ زید و عمر کی صورتوں میں مرتے مرتے امتیاز باقی رہے کون سی قوت ہے ؟

وہ مادۂ حیوانی جس سے رحم میں جنین [۱] کی تشکیل و تکمیل ہوتی ہے ، سوال یہ ہے کہ آیا خود بخود نظام جنین کی صورت میں تبدیل

---

[۱] ماں کے پیٹ میں جب تک بچہ رہتا ہے ، اُس کو جنین ہی کہتے ہیں -

ہو جاتا ہے یا اُسے اِس نظام میں تبدیل کرنے والی یا اُس کو اِس ہیئت خاص میں لانے والی کوئي اور قوت ہے ' آیا ہم یہ فرض کر سکتے کہ نظام جنین بغیر کسی ایسي قوت کی تحریک کے جو محرک تنیظم ہو آپ ہی قائم ہر سکتا ہے ؟ یقیناً ایسا نہین ہو سکتا -

یہ ہیں بعض کھلے ہوئے تصرفات، ہمارے نفس کے ' اس زندگي میں - اس سے آپ اتنا تو سمجھہ ہی گئے ہونگے کہ نظام حیات میں نفس کی مرکزی حیثیت ہے ' یعنی تمام نظام حیات نفس ہي سے وابستہ ہے -

اب رہے یہ سوالات کہ نفس کوئی مادی شے ہے یا غیر مادی - عرض ہے یا جوہر ' فانی ہے یا غیر فانی اور اگر غیر مادی ہے تو اُس کا مادے سے کیا تعلق ہے ؟

مادین [۱] کے یہ مسلمات میں سے ہے کہ کائنات میں مادے کے سوا اور کچھہ نہیں پایا جاتا ' ننس کا بھی کوئی جداگانہ وجود نہیں ہے ایک مادی شے ہے ' ترکیب عناصر سے ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اسی کو نفس کہتے ہیں ' فی‌الحقیقت نظام حیات مادي ہے اور مادے ہی سے وابستہ ہے - مادہ ہی ایک مستقل شے ہے اور کسی شے کا کوئی مستقل وجود نہیں -

ہم بھي اِسے تسلیم کر لیتے ' لیکن بعض دشواریاں اِن امور کے ماننے سے پیدا ہوتی ہیں جن کو ہم ~~یہ~~ دفعات ذیل میں بیان کرتے ہیں -

۱ـــ مادے کا ذاتی امتیاز (جس کے بغیر مادہ پایا ہی نہیں جا سکتا) صرف وزن و جسامت اور کسی شکل اور جگہ میں پایا جاتا ہے

---

[۱] مادین ' وہ لوگ ہیں جو مادے کے سوا اور کسی وجود کے قائل نہیں -

اور یہی ماھیت جسم کی ھے ، اِس لئے مادہ اور جسم دو متبائن کلی قرار نہیں دے جا سکتے [۱] -

جب ھم اپنے نظام حیات پر نظر ڈالتے ھیں تو یہ پاتے ھیں کہ نظام حیات ربط و ترتیب کا ایک بہترین نمونہ ھے ، اُس کا ھر عنصر کسی خاص مقصد کے لئے ھے اور ھر جزو دوسرے جزو سے کسی مقصدِ آخری کی تکمیل کے لئے وابستہ و مربوط - کلی اعتبار سے اعمالِ نشو و نما و بدلِ ما یتحلل پر نظر ڈالئے یا جزئی اعتبار سے اعضاء و جوارح کی ساخت اور اُن کے افعال اور مختلف افعال کے باھمی تعلق پر ، نظام حیات کا کوئی شعبہ آپ ایسا نہ پائینگے جس کی تنظیم میں اغراض و مقاصد کی انتہائی رعایت نہ ملحوظ ھو ھر عنصرِ جسم کا ایک خاص فعل ھے اور ھر فعل کا ایک نتیجۂ ما بعد ، ھر عضو کی ایک مخصوص ساخت ھے اور اُن افعال کے انجام دینے کے لئے بہ غایت موزوں جو اُس کی فطری غایت ھے - پھر ھم تنظیم حیات کے کیوں نہ قائل ھوں ؟

یہ مسلم ھے کہ ھر حرکت محتاجِ محرک ھوتی ھے اور تنظیم بھی ایک طرح کی حرکت ھی ھے - مگر مادے کا کوئی امتیاز خاص بجز جسم و

---

[۱] جسم بسیط (نا قابل تجزی) بھی ھوتا ھے اور مرکب بھی مگر بہر صورت جسم کا وہ امتیاز جس کی وجہ سے وہ جسم سمجھا جاتا ھے - وزن ، جسامت اور کسی شکل اور جگہ میں پایا جانا ھی ھوتا ھے اور یہی مادے کا امتیاز ھے ، اِس طرح بلحاظ ماھیت مادہ اور جسم ایک ھی شے ھے - لیکن مادے یا جسم کے پائے جانے کے معنی یہ نہیں کہ اُس کا محسوس ھونا بھی ضروری ھو ، ایسے بھی اجسام ھیں جو پائے تو جاتے ھیں مگر کسی طرح محسوس نہیں ھو سکتے مثلاً ایتھر (مادۂ لطیف) اِس لئے پائے کے معنی صرف ثابت و متحقق ھو جانے کے سمجھنا چاھئے -

جسمانیت کے نہیں ، پھر ایسی شے کو منتظم حیات کیونکر مانا جا سکتا ھے ؟

۲ — اگر کہا جائے کہ مادے میں کوئی حرکت بھی پائی جاتی ھے تو یہ دریافت طلب ھوگا کہ مادے میں کس طرح کی حرکت پائی جاتی ھے ؟ بلحاظ اغراض و مقاصد ، حرکت دو طرح کی ھوسکتی ھے ، ایک تو وہ جس کی کوئی غرض و غایت نہ ھو ، دوسری وہ جو غرض و غایت پر مبنی ھو ۔ فرض کیجئے کہ مادے میں ایسی ھی حرکت پائی جاتی ھے ، جس کی نہ کوئی غایت ھے نہ اُس کو اغراض مقاصد سے کوئی تعلق ، ظاھر ھے کہ ایسی حرکت ، نہ حرکت تنظیم سمجھی جاسکتی ھے ، نہ مادہ ایسی حرکت کی بنا پر منتظم ، اِس لئے کہ تنظیم ایک حرکت تو ھے مگر ایسی حرکت ھے جو یکسر لحاظ اغراض و مقاصد پر مبنی ھوتی ھے ۔

۳ — اگر کہا جائے کہ مادے کی حرکت غرض و غایت پر مبنی ھے تو یہ بھی ماننا ھوگا کہ مادے کی حرکت ، حرکت اضطراری نہیں ، اس لئے کہ ایسی حرکت جو غرض و غایت رکھتی ھو ، اضطراری نہیں ھوتی ارادی ھوتی ھے ۔

۴ — اِس طرح مادے کو متحرک بالارادہ ماننا ھو گا مگر کسی شے کو متحرک بالارادہ ماننے سے پہلے یہ ماننا بھی ضروری ھے کہ وہ شے ذی شعور بھی ھے ، اِس لئے کہ حرکت ارادی لحاض غرض و غایت پر مبنی ھوتی ھے اور لحاض غرض و غایت بغیر شعور ھو نہیں سکتا ۔ شعور ھی وہ شے ھے جس سے تمام حرکات ارادی کی ابتدا ھوتی ھے ۔

نتیجہ یہ ھے کہ اگر ھم مادے کو منتظم حیات مانتے ھیں تو بالضرور ھم کو یہ بھی ماننا ھوگا کہ مادہ نہ صرف متحرک ھے بلکہ متحرک بالارادہ

(ذی شعور) بھی ھے اور مادے کی تعریف ' محض جسم یا جسم متحرک کے بجائے ' جسم متحرک بالارادہ (ذی شعور) کرنا ھوگی -

اس کے سوا ھمیں مادے کو یوں بھی ذی شعور ماننا ھوگا کہ ھماری حیات بداھۃً ذی شعور ھے ' اگر ھم مادے کو ذی شعور نہیں مانتے ھیں تو یہ سوال ھوتا ھے کہ جب اصل شے یعنی مادے ھی میں شعور کا وجود نہیں ' تو ایک مادی شے یعنی حیات میں کہاں سے آیا ؟ لامحالہ ماننا ھوگا کہ مادہ ذی شعور ھے -

۵ــــ مادے کو ذی شعور ماننے سے مسئلۂ نظام حیات تو یوں حل ھو جاتا ھے کہ شعور بنائے حرکت ارادی اور حرکت ارادی اصل تنظیم ھے ' مگر دیکھنا یہ ھے کہ قوت شعور مادے میں مانی بھی جا سکتی ھے ' ذات مادہ اِس کی متحمل بھی ھے ' اصل سوال یہ ھے کہ آیا قوت شعور کوئی مادی قوت ھے ؟

ھر شے کی ایک ذات ھوتی ھے اور اُسی سے اُس کے قویٰ و افعال کا نظام وابستہ ھوتا ھے - مادے کا وہ امتیاز جس سے اُس کے وجود کا تعین ھوتا ھے ' جسم و جسمانیت کے سوا اور کچھہ نہیں ' اِس لئے جسمانیت ھی کو ذات مادہ قرار دیا جا سکتا ھے اور یہی سمجھا جا سکتا ھے کہ اگر مادے میں کوئی قوت ھوگی تو وہ جسمانیت ھی سے وابستہ اور جسمانیت ھی کے تابع ھوگی -

اِس امکان کے مان لینے کے بعد ' جب ھم قوت شعور اور جسمانیت کے باھمی تعلق پر نظر ڈالتے ھیں تو افعال حیات میں شعور کو محرک اور جسمانیت کو متحرک پاتے ھیں - اگر قوت شعور کا محرک اور جسمانت کا متحرک ھونا مشتبہ ھو تو اِس کو یوں سمجھئے کہ

ھر متحرک اپنی حرکت میں محتاج محرک ھوتا ھے اور جسم بھی ایک متحرک ھے ، اِس لئے اپنی حرکت میں محتاج محرک ھے - مگر جسم چونکہ متحرک بالارادہ مانا گیا ھے (دیکھئے دفعہ ۴) اِس لئے اپنی حرکت میں محتاج غیر نہیں ، خود اپنے ھی اردے کا معلول ھے - ارادے کے متعلق یہ طے شدہ ھے کہ ارادے کی بنا شعور پر ھوتی ھے اور شعور ھی سے ارادے کی تحریک ھوتی ھے ، اِس طرح شعور کا محرک اور جسم کا متحرک ھونا ثابت ھے -

اِس لئے اگر ھم شعور کو کوئی جسمانی قوت مانتے ھیں تو ھم کو اِس کے ساتھہ ھی یہ بھی ماننا ھوگا کہ ایک جسمانی قوت خود اپنی ذات میں بھی متصرف ھو سکتی ھے ، جسم اپنی ھی قوت کا معلول بھی ھو سکتا ھے -

مگر یہ قابل قیاس نہیں کہ کوئی ذات اپنی ھی قوت کی معلول ھو ایسا ھو نہیں سکتا ، یہ نظام قویٰ و افعال کے قطعی خلاف ھے -

محرک مرکزی

ھر نظام اپنے افعال میں ایک محرک مرکزی کا تابع ھوتا ھے اور ھر نظام کے اعمال اپنے محرک مرکزی پر منتہی ھوتے ھیں اگر ایسا نہ ھو تو کوئی نظام قائم ھی نہیں ھو سکتا - مثال کے طور پر حیات شاعرہ ھی کو لیجئے کہ حیات شاعرہ بھی ایک نظام ھے اور اِس نظام کے تمام اعمال ، اپنے محرک مرکزی ، ذھن کے تابع ھوتے ھیں ، تمام ذھنی قوتیں مرکزیت ذھن ھی کی ماتحت کام کرتی ھیں ، تمام اعمال ارادی پر نظر ڈالی جائے ، مرکزیت ذھن ھر عمل میں نظر آئیگی - اگر یہی مرکزیت اِس نظام سے جدا کر لی جائے تو نظام ذھنیت باقی ھی نہیں رہ سکتا - مجانین کے اعمال میں کوئی نظام اِسی لئے نہیں ھوتا کہ اُن کے اعمال ذھنی میں کوئی مرکزیت نہیں رھتی -

یہ ھے احتیاج مرکزیت - اگر کہا جائے کہ متعدد مشینیں ھیں جو ایک نظام تو ضرووی رکھتی ھیں ، مثلاً تیلیفون ، لا سلکی ، گراموفون وغیرہ مگر اُن کا نظام کسی محرک مرکزی کا تابع نہیں ھوتا اور نہ کسی محرک مرکزی کا کوئی وجود ھی اُن کے نظام میں پایا جاتا ھے ؟

یہ شبہ بعض غلطفہمیوں پر مبنی ھے ، پہلی غلطی تو تحدید نظام یعنی نظام کے حدود متعین کرنے میں کی جاتی ھے اور دوسری ، پہلی غلطی سے غلط نتیجہ نکالنے یعنی انکار مرکزیت میں -

اگر کسی مشین کے نظام سے مراد وہ مجموعۂ آلات مرتب ھی ھو ، جس کو مشین کہا جاتا ھے تو ظاھر ھے کہ اُس مجموعہ مرتب میں ، اسباب جمع و ترتیب شامل نہیں ورنہ وہ مجموعہ اپنے جامع و مرتب سے مستغنی ھوتا ، اس لئے کسی مشین کے نظام ، حدود آلات ھی میں محدود کر دینا صحیح نہیں - مکمل نظام سے مراد ، وہ مجموعۂ علل و اسباب ھو سکتا ھے ، جس کے ماتحت کوئی مشین کس خاص مقصد کے لئے مرتب ھوتی ھے اور اپنے افعال انجام دیتی ھے - کسی مشین کے نظام کے صحیح حدود یہی ھیں ، اُنھیں حدود میں آپ محرک مرکزی کی تلاش کر سکتے ھیں -

جس نظام کا مرتب و محرک انسان ھے ، انسان کی ذات ھی اُس نظام کی محرک مرکزی ھے ، اگر اِس محرک مرکزی کو اُس نظام سے جدا کر لیا جائے تو وہ نہ نظام قائم رہ سکتا ھے اور نہ اُس سے وہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ھے جس کے لئے وہ نظام قائم کیا گیا ھو - انسان کی ذات ھی کے ساتھ اُسکا ھر نظام مصنوع قائم ھے ، مثلاً گھڑی کا موجد بھی انسان ھے اور اس ایجاد سے فائدہ اُٹھانے والا بھی وہ خود ھی ھے ، فرض کیجئے ، اگر انسان نہ رھے تو یہ ایجاد کیونکر باقی رہ سکتی ھے اور اِس سے وہ فائدہ

کس طرح حاصل ہو سکتا ہے جس کے لئے یہ ایجاد، ایجاد ہوئی ہے؟ اِسی پر دیگر مصنوعات انسانی کو قیاس کیجئے - بہر صورت محرک مرکزی کے وجود سے انکار نہیں ہو سکتا، کوئی نظام ہو؛ ہر نظام کو اپنی حرکت ترتیب و حصول غایت میں محرک مرکزی کی احتیاج ہے -

کسی شے کے نفس ذات سے مراد وہ مرکزیت ہے جس سے اُس شے کے قویٰ و افعال کا نظام وابستہ ہوتا ہے -

کسی شے کے نفس ذات سے مراد بھی، وہ مرکزیت ہے، جس کے ساتھ اُس شے کا تمام نظام قویٰ و افعال وابستہ ہوتا ہے، ذات کے معنی کسی شے کی اصل و حقیقت کے ہیں اور کسی شے کی اصل و حقیقت وہی ہو سکتی ہے جو اُس شے کے نظام میں مرکزی حیثیت رکھتی ہو، تمام حرکات ترتیب و تنظیم و حصول غایت کی ابتدا اُسی سے ہوتی ہو اور تمام سلسلۂ اعمال اُسی پر منتہی ہوتا ہو - اِس طرح ذات شے اور محرک مرکزی؛ ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں -

اِن تصریحات سے آپ اِس نتیجہ پر تو پہونچ ہی گئے ہونگے کہ ہر نظام ایک مجموعہ عامل و اسباب مرتب ہوتا ہے اور ہر مجموعۂ مرتب کو، حرکت جمع و ترتیب میں ایک مرتب و محرک کی لازمی احتیاج ہے اور وہی مرتب و محرک نظام، جس کی احتیاج ہے، محرک مرکزی ہے اور محل حرکت و متحرک جسم و جسمانیت ہے - یہی نظام فعل و انفعال ہے - اسی نظام فعل و انفعال کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنے سے حسب ذیل نتائج بر آمد ہوتے ہیں جو در اصل اصول نظام فعل و انفعال ہیں -

الف، کوئی محرک مرکزی، متحرک نہیں ہو سکتا -

ب، کوئی متحرک، محرک مرکزی نہیں ہو سکتا -

ج، قوت محرکہ، تابع محرک ہوتی ہے -

د ، کوئی ذات اپنی قوت کی معلول نہیں ھوتی -

چونکہ یہی اصول ، معیار فکر و نظر مباحث آیندہ ھیں ، اِس لئے انھیں یہاں اچھی طرح سمجھہ لینا چاھئے ، ھم ھر اصول پر ایک سلسلہ‌وار نظر ڈالینگے -

اول ، کوئی محرک مرکزی ، متحرک نہیں ھو سکتا ''

فرض کیجئے کہ ذات مادہ یعنی جسمانیت میں ، قوت محرکہ ھے اور یہہ مسلم ھے کہ ھر قوت اپني ذات کی تابع اور اپنی ذات کے ساتھہ وابستہ ھوتی ھے ، اس لئے ھر فعل جو کسي قوت کا فعل سمجھا جاتا ھے در اصل وہ اُسی ذات کا فعل ھوتا ھے جس سے کوئی قوت وابستہ و متعلق ھوتی ھے مثلاً زید کاتب ھے، یعنی اُس کی ذات میں قوت کتابت ھے ، اب فعل کتابت کو دیکھئے کہ اگرچہ یہ فعل ، بغیر قوت کتابت صادر نہیں ھوتا مگر کاتب زید کی ذات ھی سمجھی جاتی، قوت کاتب نہیں سمجھی جاتی -

در اصل ، قوت ایک استعداد و قدرت فعل کا نام ھے ، اِس لئے اگر ھم کسی قوت کو محرک سمجھتے ھیں تو حقیقتاً اِس کے یہي معنی ھیں کہ ھم اُس ذات کو محرک سمجھتے ھیں جس سے کوئی قوت محرکہ وابستہ ھے -

اب ھم کہتے ھیں کہ جسمانیت میں قوت محرکہ کے پائے جانے کے صرف یہی معنی ھیں کہ جسمانیت میں استعداد دوسری شے کو حرکت دینے کی ھے مگر جب ھم جسمانیت کو بالفعل محرک مانینگے تو اِس کے یہہ معنی ھونگے کہ جسمانیت ، بالفعل کسی شے کو حرکت دے رھی ھے ،

اِس صورت میں خود جسمانیت ہی کو وہ متحرک ، جس کو خود جسمانیت ہی حرکت دے رہی ہو کس طرح مانا جا سکتا ہے ؟ محرک و متحرک ، علت و معلول ایک نہیں ہو سکتے ، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ذات ، جو محرک مرکزی مانی جا چکی ہے ، خود ہی متحرک بھی ہو ، کوئی محرک ہو ، جس وقت وہ محرک ہوتا ہے ، متحرک نہیں ہو سکتا ، اس کے خلاف ماننا نہ صرف خلاف قیاس ہوگا بلکہ خلاف مشاہدہ بھی ہوگا -

بہر حال کوئی محرک مرکزی ، متحرک نہیں ہو سکتا ، نتیجہ یہ ہے - ✓

دویم ، کوئی متحرک ، محرک مرکزی نہیں ہو سکتا ، چونکہ یہ قضیہ ، قضیۂ اول الذکر کا عکس ہے اِس لئے محتاج ثبوت نہیں -

سویم ، قوت محرکہ تابع محرک ہوتی ہے ؛ نظام یہی ہے ، جیسا کہ اصول اول کے ماتحت کہا جا چکا ہے -

چہارم ، کوئی ذات اپنی قوت کی معلول نہیں ہوتی ، ارر نہ ہو سکتی ہے اس لئے کہ ہر قوت اپنے فعل میں اپنی ذات کی تابع ہوتی ہے ، متبوع نہیں ہوتی یہ بھی اصول اول کے ماتحت کہا جا چکا ہے -

اب ہم اِن اصولوں کی رہنمائی میں اِس مسئلۂ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ آیا قوت شعور کوئی جسمانی قوت ہے ؟

۲ ـــ چونکہ قوت شعور ایک قوت محرکہ ہے ، یہ مسلم ہے (دیکھئے دفعہ ۵) اِس لئے اگر ہم اِس قوت کو جسمانی قوت مانتے ہیں تو جسمانیت کو بھی محرک مرکزی ماننا ہوگا مگر حسب اصول (الف و ب) نہ متحرک ،

مرکزی متحرک ہو سکتا نہ محرک مرکزی ، متحرک اور جسمانیت ، یہ بھی مسلم ہے کہ ایک متحرک شے ہے -

۷ـــقوت شعور اگر کوئی جسمانی قوت ہوتی تو حسب اصول (ج) تابع جسمانیت ہوتی مگر چونکہ شعور تابع جسمانیت نہیں ، متصرف جسمانیت ہے (دیکھئے دفعہ ۵) اِس لئے جسمانی نہیں سمجھا جا سکتا -

۸ـــچونکہ حسب اصول (د) یہ مسلم ہے کہ کوئی ذات اپنی قوت کی معلول نہیں ہوتی ، اِس لئے جسمانیت کو کسی حرکت میں نہ اپنی قوت کا معلول سمجھا جا سکتا ہے نہ شعور کو کہ ایک قوت محرکہ ، متصرف جسمانیت ہے ، جسمانی سمجھا جا سکتا ہے -

۹ـــچونکہ کوئی قوت تنہا بغیر کسی محرک مرکزی کے ، جس کے ساتھ وہ وابستہ و متعلق ہو ، نہیں پائی جاتی ہے ، اِس لئے یہ ماننا ہوگا کہ اس قوت شعور کا تعلق بھی کسی محرک مرکزی سے ہے اور کسی ذات سے متعلق پائی جاتی ہے - یہ تسلیم کر لینے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ وہ محرک مرکزی یا وہ ذات جس سے قوت شعور متعلق پائی جاتی ہے ، منتظم و متصرف جسمانیت ، نفس ہے نہ کہ خود جسم و مادہ - ہاں اگر حقیقت مادہ ، ماورائے مادیت و جسمانیت بھی کچھ متحقق ہو تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ذات ، جس کو ہم نے محرک مرکزی کہا ہے اور اصطلاحاً جو نفس کہی جاتی ہے وہی نفس نفس مادہ
مادہ در حقیقت مادہ بھی ہے ، لانہاقشۃ فی الاصطلاح -

۱۰ـــبلحاظ امور مذکور بالا ، اس مسئلہ کا حل کہ آیا قوت شعور کوئی جسمانی قوت ہے ، یہی ہے کہ قوت شعور نہ کوئی جسمانی قوت ہے نہ

جسمانی قوت ھو سکتی ھے اِس لئے کہ جسم میں اِس کی اھلیت ھی نہیں ھے کہ وہ قوت شعور کا حامل ھو سکے ، البتہ نفس میں اِس کی اھلیت ھے کہ اُس کو ذی شعور سمجھا جائے ۔

قوت شعور نفس سے وابستہ ھو سکتی ھے نہ کہ جسم سے

اِس مسئلہ کے طے ھونے کے بعد کہ قوت شعور کو جسمانی یا مادی قوت نہیں سمجھا جا سکتا ، ھم کہتے ھیں ،

۱۱ــ چونکہ نفس (متحرِّکِ مرکزی) ذی شعور ھے اور مادہ شعور سے عاری ، اس لئے نفس کو مادی نہیں سمجھا جا سکتا ۔

۱۲ــ چونکہ نفس ، متحرِّک ھے اور مادہ متحرک ، اِس لئے نفس کو قوت مادی بھی نہیں مانا جا سکتا ۔ ظاھر ھے کہ جب شعور ھی کو جسمانی و مادی قرار نہیں دیا جا سکتا تو ایک ذی شعور ذات کو کس طرح جسمانی و مادی قرار دیا جا سکتا ھے ۔ حقیقت یہ ھے کہ جب تک یہ ثابت نہ کیا جائے کہ شعور جسم [۱] میں ، ایک جسمانی قوت کی حیثیت سے پایا جا سکتا ھے ، نفس کو مادی و جسمانی قرار نہیں دیا جا سکتا ۔

۱۳ــ کہا جا سکتا ھے کہ جب آثارِ افعال سے قوت شعور جسم میں بالفعل پائی جاتی ھے یعنی آثار افعال سے یہ معلوم ھوتا ھے کہ قوت شعور بالفعل جسم میں ھے تو اِس امکان کے ثابت کرنے کی کیا ضرورت ھے کہ شعور جسم میں پایا جا سکتا ھے ؟

اِس کو سمجھنے کے لئے مکرر اِن مسلمات پر غور کیجئے ،

---

[۱] جسم سے مراد مطلق جسم یا مادہ ھے ، کسی خاص نوع کا جسم مراد نہیں ۔

(اولاً) قوتِ شعور جو ایک قوت متحرّکہ ہے متحرک ہی میں پائی جا سکتي ہے "

(ثانیاً) تنظیمِ حیات میں ، جسمانیت کي حیثیت متحرک و معلول کي ہے "

اب اِن مسلمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اِس امر پر غور کیجئے کہ شعور کے جسم یا مادے میں پائے جانے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں کہ جب جسمانیت قوت شعور کی حامل ہي نہیں ہو سکتی ؟

واقعہ یہ ہے کہ جسمانیت محلِ تنظیم ہے اور تنظیم فعلِ شعور ہے اور چونکہ اس فعلِ تنظیم کا اظہار محل تنظیم یعنی جسمانیت ہی سے ہوتا ہے ، اِس لئے بظاہر یہ گمان ہو سکتا ہے کہ علتِ متصرف بالفعل ، جسم ہی کی کوئي قوت ہے ، اِس غلط فہمي کی ابتدا کہ قوت شعور کوئي جسمانی قوت ہے ، یہیں سے ہوتی ہے ، مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گمان ، گمانِ باطل سے زیادہ وقیع نہیں جیسا کہ بصراحت کہا جا چکا ہے - اب قوتِ شعور کے جسم میں پائے جانے کے یہي معنی ہو سکتے ہیں کہ شعور نفس میں پایا جاتا ہے اور نفس ایک متحرّکِ و متصرفِ جسم کی حیثیت سے جسم میں متصرف پایا جاتا ہے ، اگر شعور کو براہ راست متحرّک ہي مان لیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ شعور ایک متحرک و متصرف کي حیثیت سے جسم میں پایا جاتا ہے ، لیکن کسي قوت کا اس حیثیت سے متصرف جسم پایا جانا جسماني ہونے کے مرادف تو نہیں اِن دونوں باتوں میں بہت فرق ہے ، متصرف جسم پایا جانا اور ہے اور جسمانی ہونا اور ہے ، اگر آپ کسي شے کو حرکت دے رہے ہوں اور آپ کی ذات اُس متحرک شے سے وابستہ نظر آتي ہو تو کیا اس کے معني ہوئے کہ آپ کي ذات ، اُس معلول و متحرک شے ہی کي پابند و تابع کوئي قوت ہے ؟

۱۴ — اگر کوئی یہ کہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نظام جسمانی میں جب کوئی خلل واقع ہوتا ھے تو نفس بھی اپنا کوئی کام نہیں کر سکتا نہ ہم کچھہ سوچ سمجھہ سکتے ہیں ، نہ کوئي ارادہ کر سکتے ہیں ، جیسا کہ بعض امراض میں دیکھا گیا ھے ، پھر کیوں نہ ہم یہ سمجھیں کہ نفس بھی ایک جسماني شے ھے ؟

یہ تو نظام علتِ و معلول ھے ، جب تک کسي شے میں ، کسي خاص فعل کے اعتبار سے معلول ہونے کی قابلیت رہتی ھے ، وہ معلول رہتي ھے اور جب وہ قابلیت نہیں رہتی یا کوئی نقص پیدا ہو جاتا ھے وہ معلول نہیں رہتی - مثلاً ایک پنکھا ھے جو بجلي کے ذریعہ سے گھومتا ھے اور قوت برقي کا معلول ھے ، اب اگر وہ پنکھا ٹوٹ جائے یا اُس میں اور کوئی خرابی واقع ہو جائے ، جس کی وجہ سے وہ نہ گھوم سکے تو کیا اس کے یہ معني ہونگے کہ برقی قوت کا کوئي جداگانہ وجود نہ تھا اور وہ پنکھے ہی کی قوت تھي ؟

اسی پر قیاس کیجئے نفس و جسم کے تعلقات کو ، جسم ایک خاص فعل یعني حیات میں نفس کا معلول ھے ، اگر اُس میں یہ قابلیت نہ رہے یا کوئی اور نقص پیدا ہو جائے (جیسا کہ بعض امراض کی صورت میں ہوتا ھے کہ جسم اپنا کوئی فعل انجام نہیں دے سکتا) تو کیا اس کے یہ معنی ہونگے کہ علت فعل کا کوئی جداگانہ وجود نہ تھا اور علتِ و معلول ایک ہی تھے یا معلول بعینہ علت تھا ، یہ کہاں تک قابل قیاس ھے ؟

۱۵ — اگر یہ کہا جائے کہ نفس ہمیشہ جسم کے ساتھہ پایا جاتا ھے کہیں جداگانہ طور پر نہیں پایا جاتا - پھر کیوں نہ یہ سمجھا جائے کہ ایک جسمانی شے ھے ؟

یہ تو نظام حیات ھے کہ نفس اسي حیثیت سے جسم کے ساتھہ پایا جاتا ھے ، لیکن اس کے یہ معنی تو نہیں ھوئے کہ علت و معلول میں کوئی امتیاز نہ رھا ۔ اب رھا یہ امر کہ نفس ، جسم سے جدا گانہ طور پر پایا نہیں گیا ، تو نفس کا جداگانہ پایا نہ جانا ، اس کے جداگانہ پائے نہ جا سکنے کوئي دلیل نہیں ، عدم علم شے سے علم عدم شے لازم نہیں آتا ۔ بالفرض اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ نفس اور جسم ھمیشہ ساتھہ ھی پائے جاتے ھیں جداگانہ نہیں پائے جاتے ؛ جب بھي تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ علت کا کوئی جداگانہ وجود نہیں ھوتا ۔

۱۶—اگر یہ کہا جائے کہ ترکیب عناصر سے ایک ایسی کیفیت پیدا ھو گئی ھے جس کو نفس کہتے ھیں ورنہ نفس کا کوئی جداگانہ وجود نہیں ۔

اس پر بھی یہی اعتراض ھوتا ھے کہ جب اصل شے یعنی مادے ھی میں شعور کا وجود نہیں مانا جا سکتا تو عناصر مادی کی ترکیب سے بھی خلاف اصول ایک ایسي شے کیوں‌کر پیدا ھو گئی ، جو ذي شعرر ھے ؟

۱۷—اگر یہ کہا جائے کہ نفس مادی قوت نہ سہی اس میں کیا قباحت ھے کہ ھم جسم کو جوھر اور نفس کو عرض [۱] مانیں ؟

اگر ھم نفس کو عرض اور جسم کو جوھر مانتے ھیں تو اس صورت میں یہ بھی ماننا پڑیگا کہ افعال حیات میں عرض تو علت اور جوھر معلول ھو سکتا ھے ، حالانکہ اس کے خلاف ھونا چاھئے تھا ۔ اس کے سوا

---

[۱] اعراض وہ ھیں جو اپنے قیام میں کسی جوھر کے محتاج ھوں اور کبھی تنہا نہ پائے جائیں مثلاً رنگ ، بو ، ذائقہ ، گرمی سردی ، سختی ، نرمی ، اور تمام کیفیات نفسی ، اور جس شے کے ساتھہ یہ چیزیں پائی جاتی ھیں اُس کو جوھر کہتے ھیں ۔ جوھر و عرض کی مزید تفصیل کے لئے دیکھئے ، فصل ” ارتقائے نفس “ ۔

۱۸ــ هم نفس کے ساتھہ غم و خوشی و خوف و غضب وغیرہ کی متعدد کیفیات دیکھتے هیں جو تمام تر اعراض هیں اور اعراض کے متعلق یہ طے شدہ هے کہ وہ اپنے قیام میں جوهر کے محتاج هوتے هیں ' یعنی اعراض جب پائے جائینگے کسی جوهر هي کے ساتھہ پائے جائینگے - اِس سے ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا هے کہ اعراض ' غیر جوهر کے ساتھہ نہیں پائے جا سکتے ' یعني عرض ' کسی عرض کے ساتھہ قائم نہیں هو سکتا ' اس صورت میں ' ان اعراض یعنی کیفیات نفسانیہ کے پائے جانے کی صرف یہی صورت هے کہ وہ کسی جوهر کے ساتھہ قائم هیں ' اِس طرح نفس کو عرض نہیں مانا جا سکتا -

عرض عرض کے ساتھہ قائم نہیں هو سکتا -

یہاں تک تو هم نے بعض وہ دشواریاں دکھائیں ' جو نفس کو مادي یا قوت مادی یا عرض ماننے سے پیدا هوتی هیں اب آگے هم وہ قباحتیں دکھائینگے جن کي بنا پر هم مجبور هیں کہ خود جسم کو جوهر نہ مانیں -

۱۹ - یہ بھي کہا جا سکتا هے کہ نفس عرض نہ سهی جوهر [۱] سہی ' لیکن یہ کیوں نہیں مانا جا سکتا هے کہ حیات دو مستقل جوهروں یعني نفس اور جسم کے متحدہ اعمال کا نتیجہ هے ؟

بے شک اگر جسم کوئي جوهر مستقل هے تو اُسے کسي دوسرے جوهر سے منفعل و متاثر نہ هونا چاهئیے؛ اس کا یہ سبب هے کہ اگر همیں یہ تسلیم هے کہ ایک شے باعتبار اپنی ذات کے قدیم هے یعنی دوسری اشیاء کی محتاج نہیں تو یہ بھی ماننا پڑیگا کہ وہ

دو جوهر مستقل ایک دوسرے کے معلول نہیں هو سکتے -

---

[۱] جوهر اُسے کہتے هیں جو قائم بذات خود هو یعنی اپنے قیام میں کسی دوسری چیز کا محتاج نهو - مادین کے نزدیک صرف مادہ جوهر هے اور اهل تثنیث کے نزدیک دو جوهر هیں مادہ یا نفس -

شے متعلقات ذات یعنی اپنی قوتوں کے اعتبار سے بھی قدیم ھے یعنی اُس شے کو قوتوں کے لحاظ سے بھی کسی شے کی احتیاج نہیں اور جب ھم اُس کی قوتوں کو بھی قدیم مان لینگے تو یہ بھی ماننا پڑیگا کہ اُس کی قوتوں سے کچھہ افعال بھی وابستہ ھونگے یعنی وہ شے اپنے افعال کے اعتبار سے بھی کسی دوسری شے کی محتاج نہ ھوگی -

کوئی شے ایسی آپ نہ پائینگے جس میں کوئی قوت نہ ھو اور اس قوت سے کوئی فعل وابستہ نہ ھو - اب اگر آپ کسی شے کو قدیم سمجھینگے تو لامحالہ آپ کو ماننا پڑیگا کہ وہ شے معہ اپنے نظام کے قدیم ھے اور اپنی تنظیم میں کسی اور شے کی محتاج نہیں - برخلاف اس کے کسی شے کو اپنے وجود میں مستغنی اور افعال میں محتاج سمجھنا ھمارے نزدیک تناقض پرستی کا مرادف ھے -

بہر صورت یہ قابل تسلیم نہیں کہ ایک جوھر مستقل دوسرے جوھر مستقل سے منفعل و متاثر ھو سکتا ھے اور جب یہ تسلیم نہیں تو یہ کس طرح تسلیم کیا جا سکتا ھے کہ حیات، نتیجہ ھے، دو مستقل جوھروں کے فعل و انفعال کا -

لیکن ھم نظام حیات میں جسم کو متصرف و معلول پاتے ھیں، اب اس کے دو ھی سبب ھو سکتے ھیں، یا تو نفس کوئی جداگانہ اور مستقل شۓ نہ ھو یا جسم خود کوئی جوھر نہو -

پہلی صورت بدلائل باطل ثابت ھو چکی ھے اب رھی دوسری صورت کہ جسم کوئی مستقل جوھر نہ ھو اس کی تائید اس مشاھدہ سے بھی ھوتی ھے -

۲۰— ریڈیم (ایک دھات ھے) جس میں ، وزن ، شکل اور جسامت تمام خصوصیات جسمانیہ ھوتے ھیں ، تجربہ سے معلوم ھوا ھے کہ ایک زمانہ معین کے اندر ، الیکٹران ، (بجلی سے بھی لطیف‌تر قوت) میں تبدیل ھو جاتی ھے ، نہ شکل باقی رھتی ھے نہ جسامت نہ کوئی اور امتیاز جسمانی ، اس لئے کہ ایسی قوت میں جو بجلی سے بھي لطیف‌تر ھو جسمانی چیزوں کا وجود نہیں مانا جا سکتا - اس سے یہ نتیجہ نکلتا ھے کہ وہ امتیازات جو مادے کے ساتھ نا قابل‌الفکاک سمجھے جاتے تھے وہ بھی کوئی مستقل وجود نہیں رکھتے - یہ آپ معلوم کر چکے ھیں کہ مادے کا جو کچھ امتیاز ھے ، جسم ھے اور جسم سے ھے ، لیکن ریڈیم کا الیکٹران کی صورت میں تبدیل ھو جانا یہ بتاتا ھے کہ جسم ، جسم ھی نہیں رھتا یعنی نہ مقدار باقی رھتي ھے نہ صورت اور جب یہ چیزیں باقی نہیں رھتیں تو وہ کون سی شے باقی رہ جاتي جس پر اطلاق جسم یا مادے کا ھو سکے ؟ اس طرح

معلوم ھوا کہ جسم ، جس کو جوھر کہا جاتا ھے کوئي جوھر نہیں - اس لئے کہ جوھر کو ایک مستقل شے ھونا چاھئے اور جسم کوئي مستقل شے نہیں ھے -

اور یہ اس طرح بھي ثابت ھے کہ

۲۱— جدید سائنس یہ تسلیم کرتي ھے کہ ابتدائے آفرینش میں ذرات مادی ایک بسیط صورت میں تھے پھر بعض اسباب کے ماتحت اُنھیں کے امتزاج (باھم ملنے) سے رفتہ رفتہ کائنات پیدا ھوئي (یھي ابتدائے نظریۂ ارتقا ھے) -

حقیقت مادہ

۱- نفس کوئی عرض نہیں ہے (دفعہ ۱۷ و ۱۸)

۲- مادہ کوئی جوہر نہیں ہے - (دفعہ ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۱)

یہ معلوم کرنے کے بعد ہمیں اس کی ضرورت نہیں کہ ہم نفس کو جوہر اور مادے کو عرض ثابت کریں - کائنات میں دو ہی قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں : قائم بذات خود ، جوہر اور قائم بالغیر یعنی عرض ، اب اگر کوئی شے عرض نہیں ہے تو اِس کے یہی معنی ہوئے کہ وہ جوہر ہے اور بر عکس اِس کے یہی معنی ہوے کہ لامحالہ وہ عرض ہے -

اِس طرح مادے کا عرض ہونا اور نفس کا جوہر ہونا ثابت ہے - اب رہا نفس کا فانی ہونا یا نہ ہونا سو اگر فنا کے معنی اُس تغیر و انقلاب ہی کے لئے جائیں جو اجسام میں ہر لحظہ رہتا ہے ، تو ظاہر ہے کہ اس انقلاب پیہم کا تعلق اعراض سے ہے نہ کہ جوہر سے - تغیرات اعراض سے جوہر نفس کا متغیر ہونا لازم نہیں آتا ، اِس لئے کہ اعراض اور جوہر نفس میں کوئی لزوم ذاتی [۱] نہیں کہ اعراض کا تغیر نفس کے تغیر کو مستلزم ہو -

اصل یہ ہے کہ نفس کے متعلق جملہ شبہات کی بنیاد یہ عقیدہ ہے کہ صرف مادے کا ایک مستقل وجود ہے اور اُس کے سوا اور کسی شے کا کوئی مستقل وجود نہیں -

---

[۱] اِس امر کا ثبوت کہ اعراض اور جوہر نفس میں کوئی لزوم ذاتی نہیں یہ ہے کہ مرتبۂ تجرید میں نفس تمام اعراض سے مجرد یعنی مجرد عن المادہ پایا جاتا ہے ، دیکھئے " فصل ارتقائے نفس " -

مادے کی تعریف یہ کی جاتی ھے کہ مادہ وہ ھے جو شکل ، جسامت اور مقدار رکھتا ھے ، یہی ذاتیات مادہ ھیں ، ان کے سوا جو کچھہ ھے یعنی جو کچھہ اجسام میں پایا جاتا ھے ، رنگ ، بو ، ذائقہ ، حرارت ، برودت ، سختی ، نرمی ، وغیرہ یہ سب از قبیل اعراض ھیں یعنی ان کا کوئی جداگانہ و مستقل وجود نہیں ۔

اس طرح مادہ صرف وزن ، شکل اور جسم رکھنے والی شے کو کہتے ھیں اور ھم اُسے کوئی شے مستقل انھیں امتیازات کی بنا پر کہتے ھیں ۔

لیکن ھم اس نتیجے پر پہونچے ھیں کہ یہ امتیازات مادی یعنی وزن ، شکل اور جسامت بھی از قبیل اعراض ھیں یعنی ان کا بھی کوئی مستقل وجود نہیں (دیکھئے دفعات ۱۹ ، ۲۰ و ۲۱) ۔

اس طرح مادہ یکسر مجموعہ اعراض ھو گیا ۔ یہ طے شدہ ھے کہ اعراض کا کوئی مستقل وجود نہیں ھوتا اور وہ اپنے پائے جانے میں کسی جوھر کے محتاج ھوتے ھیں ، اس لئے اس مجموعہ اعراض کے پائے جانے کی بھی صرف یہی صورت ھے کہ وہ کسی جوھر کے ساتھہ قائم ھے اور وہ جوھر جس کے ساتھہ یہ مجموعہ اعراض قائم ھے ، نفس ھے ۔

اس طرح معلوم ھوا کہ نفس ھی ، نفس مادہ و حقیقت مادہ ھے ، وہ نفس ھی ھے جس کے بغیر یہ مجموعہ اعراض (مادہ) پایا نہیں جا سکتا ۔

لیکن نفس کی یہ عمومیت کہ اس کے ساتھہ تمام اعراض مادی بلا قید تخصیص قائم ھیں ، افراد و انواع و اجناس کی قید سے آزاد ھوکر ھے ، ورنہ جب نفس اعراض جمادات سے تعلق ھوتا ھے تو نفس حمادی سمجھا جاتا ھے ، اعراض نباتات سے تعلق رکھتا ھے تو نفس نباتی ، اعراض حیات

حیواني سے متعلق ہوتا تو نفس حیوانی ، حیات انسانی سے متعلق ہوتا ہے تو نفس انسانی اور اگر انواع حیات انسانی کا لحاظ کیا جائے تو جب اعراض حیات شاعرہ سے متعلق ہوتا ہے تو انانیت اور جب حیات غیر شاعرہ سے متعلق ہوتا ہے تو طبیعت سمجھا جاتا ہے اور اگر کسی قید کا لحاظ نہ کیا جائے تو مطلق نفس [ا] -

نفس انساني اور نفس مطلق

جس طرح روشنی کہ اپنے مختلف مظاہر کے اعتبار سے مختلف ناموں سے موسوم ہوتی ہے مثلاً ستاروں کی روشنی ، آگ کی روشنی ، بجلی کي روشنی ، گیس کي روشنی اور اگر کسي قید کا لحاظ نہ کیا جائے تو روشنی ، مطلق روشنی ہے -

یوں ہی نفس بھی اگرچہ ایک جوہر کائنات اعراض ہے مگر اختلاف تعینات کے اعتبار سے ، امتیازاً مختلف ناموں سے موسوم ہوتا ہے اور مختلف صورتوں میں متحقق ہوتا ہے -

حاصل اس تمام بحث کا بدفعات ذیل ہے -

ا ـــ نہ صرف نظام حیات انسانی بلکہ تمام نظام کائنات [٢] تنظیم

[ا] اِس مضمون میں جہاں تک نظام حیات انساني کا تعلق ہے ہم نے لفظ نفس کو نفس انساني کے معنوں میں استعمال کیا ہے اور جہاں نظام کائنات سے بحث ہے وہاں نفس کلي کے معنوں میں اور جہاں کوئي قید تخصیص نہیں ، وہاں مطلق نفس کے معنوں میں -

[٢] نہ صرف نظام حیات انساني بلکہ تمام نظام کائنات سلسلۂ علت و معلول سے وابستہ و مربوط نظر آتا ہے ، اس صورت میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جب کائنات امکان میں کوئي شے بجز نفس اور اُس کے اعراض کے پائي ہي نہیں جاتي تو علت و معلول میں کوئي تمیز و تفریق کیونکر ہو سکتي ہے ، کس شے کو علت اور کسے معلول سمجھا جا سکتا ہے ؟

نفس کی دو مختلف حیثیتیں ہیں ، ایک تو یہ کہ وہ مظہر (ظاہر کرنے والا) جسمانیات کا ہے ، اور دوسری یہ کہ وہ متصرف جسمانیات ہے - پہلی صورت میں وہ جوہر ہے اور جسمانیات ، اعراض اور دوسری صورت میں وہ علت تدبیر و تنظیم ہے اور جسمانیات معلول -

تفریق علت ومعلول

نفس ہی کا نتیجہ ہے، بغیر تنظیم نفس، کوئی نظام قائم ہی نہیں ہو سکتا -

۲—نفس ایک جوہر مدبر و متصرف، ذی شعور و ارادہ ہے اور جسمانیت اعراض، یہی تعلق نفس و جسمانیات ہے -

یہ ہے ماہیت نفس -

قائلین وحدت مادی، غور کریں کہ آیا بنیاد نظام کائنات مادۂ لایعقل کا اس حیثیت سے قرار دیا جانا کہ خود ذات مادہ، محل تصرف اور مادے کی قوت، مادے میں متصرف ہے زیادہ قابل قبول و قرین قیاس ہے یا مادے یعنی اعراض، شکل، مقدار اور جسامت وغیرہ کو محل تصرف اور نفس ذی شعرر و ارادہ کو (متصرف مان کر) منتظم نظام کائنات سمجھنا ؟

حاصل سلسلہ علت و معلرل یہ نہیں کہ مادے کی قوت اپنی ذات یعنی مادے میں متصرف ہے بلکہ یہ ہے کہ نفس، اعراض مختلفہ یعنی مادے میں متصرف ہے -
یہ ہے تحقیق اس باب میں -

باب دویم

قویٰ و افعال نفس

افعال نفس

چونکہ کسی ذات کا تفصیلی علم اس کی قوترں کے تفصیلی علم پر مبنی ھوتا ھے اور قوتیں اپنے افعال ھی سے پہچانی جاتی ھیں اس لئے معرفت نفس کے لئے ضروری ھے کہ افعال نفس پر بھی نظر ڈالی جائے ۔

ماھیت نفس کی بحث میں .گرچہ اجمالاً آپ یہ معلوم کر چکے ھیں کہ نفس کا مخصوص فعل تنظیم حیات ھے ' لیکن یہ اجمال کسی قدر تفصیل کا طالب ھے - نظام حیات اور اس کی تنظیم کیا ھے ؟ حقیقتاً یہی وہ مسائل ھیں جن کی تفصیل و تشریح میں افعال نفس کی تفصیل مضمر ھے ' مگر جب تک ھم کو یہ نہ معلوم ھو کہ حیات فی نفسہ کیا ھے ھم یہ کیونکر سمجھ سکتے ھیں کہ تنظیم حیات کیا ھے ' اس لئے اصولاً پہلے ھمیں یہ معلوم کرنا چاھیئے کہ حیات کیا ھے پھر مسئلہ تنظیم حیات کی طرف متوجہ ھونا چاھئے ۔

منطقیانہ اصول سے انسان کی تعریف ' حیوان ناطق یعنی ذی حیات ناطق کی جاتی ھے اور اور مطلق ذی حیات ' حیوان کی تعریف ' حیات جسم نامي ' حساس و متحرک بالاراده کي جاتی ھے ' حیوان کی اس تعریف میں جسم نامی ' جنس اور حساس و متحرک بالارادہ ' فسل ھے یعنی جب کسی جسم نامی میں تخصیص احساس

و حرکت ارادی پائی جاتی ھے تو اس کو حیوان (ذی‌حیات) سمجھا جاتا ھے، اس کے یہ معنی ہوئے کہ امتیاز حیوان (ذي حیات) حساس و متحرک بالارادہ ھونا ھی ھے اور اس طرح حیات، قوت احساس و حرکت ارادی ھی کا نام ھے۔

اگر حیات کی یہ تعریف صحیح مان لی جائے تو نہ صرف جمادات و نباتات ھی کو بے جان و مردہ ماننا ھوگا بلکہ جنین کو بھی، (جو جنین حیوان ھی ھوتا ھے) بےجان و مردہ ماننا ھوگا اس لئے کہ جمادات و نباتات کی طرح جنین میں بھی احساس و حرکت ارادی کا وجود نہیں پایا جاتا، حالانکہ جنین حیوان کو حیوان ھی ھونا چاھئے تھا ؟

اگر کہا جائے کہ جنین میں کچھہ ابتدائی آثار احساس و حرکت ارادی کے پائے جاتے ھیں اس لئے اس‌کو بےجان و مردہ نہیں سمجھا جا سکتا تو ھم کہیں‌گے کہ اس قسم کے آثار تو بعض نباتات میں بھی پائے جاتے ھیں، اگر اسی قسم کے آثار ابتدائی کی بنا پر جنین کو حیوان سمجھا جاتا ھو تو ان پھولوں اور پودھوں کو بھی، جن میں احساس و حرکت ارادی کی کوئی علامت پائی جاتی ھو، ذی حیات (حیوان) ماننا ھوگا ؟

اس کے سوا، ھم یہ کہتے ھیں کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ حیات، قوت احساس و حرکت ارادی ھی کا نام ھے تو بھی یہ غورطلب ھوگا کہ اس قوت کا انتساب کسی جسم سے کیونکر ھو سکتا ھے اور کوئی جسم چاھے وہ جسم نامی ھو یا غیر نامی حساس و متحرک بالارادہ کس طرح قرار دیا جا سکتا ھے ؟

ماھیت نفس کی بحث میں آپ یہ معلوم کر چکے ھیں کہ جسم ایک مجموعہ اعراض ھے اور اعراض کے متعلق یہ طے شدہ ھے کہ جوھر کے علاوہ

ان کا کوئی مستقل اور جداگانہ وجود ھی نہیں ھوتا ، اس صورت میں ظاھر ھے کہ جسم کو حساس و متحرک بالارادہ نہیں قرار دیا جا سکتا اس لیئے کہ احساس کرنا یا ارادہ کرنا ایک فعل ھے اور افعال کا تعلق جوھر (نفس) ھی سے ھو سکتا نہ کہ اعراض سے ۔

اس مسئلہ کے طے ھونے کے بعد کہ جسم کو حساس و متحرک بالارادہ قرار نہیں دیا جا سکتا ، ھم کہتے ھیں کہ اگر حیات، قوت احساس و حرکت ارادی ھی ھو تو بھی نفس کو ذی حیات مانا جا سکتا نہ کہ جسم کو اس لئے کہ قوت احساس و حرکت ارادی نفس سے متعلق ھو سکتی ھے نہ کہ جسم سے ۔

حاصل اس بحث کا یہ ھے کہ حیوان کی یہ تعریف کہ حیوان ، جسم نامی ، حساس و متحرک بالارادہ کو کہتے ھیں بلحاظ امور مذکور صحیح نہیں ، جسم نامی ھو یا غیرنامی مطلقاً کوئی جسم حساس و متحرک بالارادہ قرار نہیں دیا جا سکتا ۔

حقیقت یہ ھے کہ حیات (زندگی) ایک حرکت نفس کا نام ھے ، جس کا تعلق بالذات نفس سے اور بالعرض جسم سے ھے یعنی نفس ، محرک اور جسم محل حرکت و متحرک ھے اس لئے ھر حرکت جسم فی‌الواقع حرکت نفس ھی ھوتی ھے اگرچہ اس کا اظہار جسم سے ھوتا ھے ۔

اس نقطۂ نظر سے کہ حیات بالذات ایک حرکت نفس ھے ، اگر دیکھا جائے تو اس کائنات کون و فساد کا ذرہ ذرہ بالعرض ذی‌حیات و حیوان ھے اس لئے کہ ھر ذرہ کائنات ، محل تغیرات پیھم ھے اور ھر تغیر ایک نوع حرکت ھے ۔ یہ صحیح ھے ، تاھم حیات کی یہ ھمہ‌گیری کچھ امتیازات

بھی رکھتی ہے ' اگرچہ ہر شے اس عالم متحرک کی زندہ معلوم ہوتی ہے مگر ہر شے کی زندگی یکساں نہیں ' جنس حرکت مشترک سہی مگر انواع حرکت مشترک نہیں - جماد و نبات و حیوان ہی کی زندگی پر نظر ڈالئے تو مقابلتاً ان انواع کے افعال حیات کا تنوع معلوم ہوتا ہے ـــ اگر جمادات کی زندگی حرکت جذب عناصر (تغذیہ) ہی تک محدود ہے تو نباتات کی تغذیہ و تنمیہ اور حیوانات کی تغذیہ و تنمیہ ' احساس وحرکت ارادی اور تولید مثل تک وسیع ہے - وجہ یہ ہے کہ حیات ایک حرکت تو ہے ایکن نظام متحرک کے مناسب ہوتی ہے ' اس قید مناسبت نظام متحرک سے تعریف حیات میں اس قدر وضاحت اور ہو جاتی ہے کہ حیات وہ حرکت ہے جس کا نظام متحرک مقتضی ہوتا ہے ـــ چونکہ نظام ہیولانی و ترکیب جسمانی ہر متحرک کی مختلف ہوتی ہے ' اس لئے حرکت حیات بھی یکساں نہیں ہوتی ' اسی پر قیاس کیجئے حرکت کون و فساد ' فنا و بقا ' جذب و انتشار ' مختلف النوع حرکات اجسام کو کہ ہر حرکت جسمانی ' نظام جسمانی کے مناسب و موافق ہوتی ہے ' انواع حرکت کی تفریق '

نظام حیات

اختلاف ترکیب اجسام پر مبنی ہے ' یہی نظام حرکت حیات ' یا نظام حیات ہے -

موت

چونکہ موت کو مخالف حیات سمجھا جاتا ہے ' اس لئے تذکرہ حیات میں اس مسئلہ پر بھی کچھ روشنی ڈالنا ضروری ہے - عرف عام میں ' جس حال جسمانی کو ' موت حیوان سمجھا جاتا ہے ' اگرچہ وہ بظاہر ایک دور سکون و جمود جسمانیت معلوم ہوتا ہے مگر حقیقتاً ایک عالم انتشار شیرازۂ جسمانیت نوع حیوانی ہوتا ہے ' جسم اس حال میں بھی متحرک ہی ہوتا ہے ' ساکن نہیں ہوتا اس لئے کہ انتشار بجائے خود ایک حرکت ہے ' لیکن حرکت انتشار کو حرکت حیات شاید اس لئے نہیں

سمجھا جاتا ہے کہ نظام جسم حیوانی اپنے قیام کی حالت میں جن انواع حرکات کا مقتضی ہوتا ہے ، یہ حرکت ان کے خلاف ہوتی ہے ، لیکن اس نظریہ کے ماتحت کہ ہر حرکت کون و فساد چاہئے وہ کسی نظام متحرک کے اقتضا کے موافق ہو ، حرکت حیات ہی حرکت انتشار کو بھی مخالف حیات قرار نہیں دیا جا سکتا ، اگرچہ وہ اس حرکت سے مختلف ہو جس کا شیرازۂ جسم حیوانی اپنے قیام کی حالت میں مقتضی ہوتا ہے -

کلیات افعال نفس
حرکت تنظیم و
حرکت حیات

قوائے نفس
قوت شعور و ارادہ

حیات و موت کی اس صراحت کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جب اجسام کا ہر تغیر ایک حرکت ہو اور ہر حرکت ایک فعل نفس تو آپ خیال کر سکتے ہیں کہ جزئیات افعال نفس کا انحصار کس طرح ممکن ہے ؟ لیکن کلیات افعال نفس کی تقسیم اس اصول کے ماتحت کہ ہر حرکت نفس جو نظام متحرک کے مناسب ہوتی ہے ، حرکت حیات ہے ، اس طرح ہو جاتی ہے کہ ہر حرکت حیات چونکہ مناسب نظام جسمانیت ہوتی ہے اس لئے موخر تنظیم جسمانیت ہوتی ہے اور تنظیم جسمانیت ، جس سے مختلف انواع اجسام کی تشکیل ہوتی ہے خود ایک حرکت نفس ہے تو پہلی قسم ، افعال نفس کی ، حرکت تنظیم ہوئی اور دوسری قسم ، حرکت حیات - نفس کی حرکت تنظیم ہی ، عناصر بسیط کے امتزاج سے اجسام مرکبہ کی بنیاد ڈالتی ہے اور اس طرح انواع اجسام مرکبہ کی ابتدا ہوتی ہے اور حرکت حیات ، جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں ، وہ حرکت ہے جو بعد تنظیم جسمانیت ، اجسام میں ان کے نظام کے اقتضا کے موافق پیدا ہوتی ہے ، یہی اقسام افعال نفس ہیں ، انہیں سے قوائے نفس کا تعین اس طرح ہوتا ہے کہ ہر حرکت نفس چاہے وہ حرکت تنظیم ہو یا حرکت حیات ، چونکہ اغراض و مقاصد پر مبنی ہوتی ہے اس لئے ارادی ہوتی اور ارادے کے لئے

لازمی احتیاج شعور کی ھے ، اس لئے نفس کو نہ صرف ذی ارادہ بلکہ ذی شعور بھی ماننا ھوگا (جیسا کہ مادیت نفس کی بحث میں اجمالاً کہا جا چکا ھے) یہی قواے نفس ھیں جن سے تمام افعال نفس وابستہ و متعلق ھیں -

اس باب میں جو کچھ اب تک مذکور ھوا وہ قویٰ و افعال نفس کی ایک غیر مخصوص تشریح و توضیح تھی لیکن چونکہ اس کتاب کا موضوع بحث خصوصی ، نفس انسانی اور جمادیات ، قویٰ و افعال نفس انسانی ھیں ، جیسا کہ مقدمہ کتاب میں کہا گیا ھے ، اس لئے اب ھم اس بحث عام سے اپنے بحث خاص کی طرف متوجہ ھوتے ھیں -

حیات انسانی و افعال حیات انسانی

نفس کے وہ افعال جن کا مجموعہ حیات انسانی ھے ، تغذیہ ، تنمیہ ، احساس ، حرکت ارادی ، تولید مثل اور تعقل ھیں ، یہی وہ افعال ھیں جن کے امتیاز سے نفس انسانی کا تعین ھوتا ھے اور ایک محرک عام (نفس) محرک خاص (نفس انسانی) سمجھا جاتا ھے -

نوعیت افعال حیات انسانی

اب ان افعال کی نوعیت پر نظر ڈالئے تو یہ افعال باعتبار اپنی نوعیت کے دو طرح کے معلوم ھوتے ھیں ؛ ایک تو وہ جن کے صدور کا ھم کو ھر لحظہ عموماً براہ راست علم ھوتا ھے - اور دوسرے وہ جن کا براہ راست علم نہیں ھوتا - اول الذکر قسم کے افعال میں ، تفکر و تعقل اور جملہ حرکات ارادی داخل ھیں اور آخرالذکر میں تغذیہ و تنمیہ یعنی جملہ اعمال جذب غذا و رفع فضول و نشو و نمائے جسم داخل ھیں -

دوسری طرح تقسیم افعال حیات انسانی کی اس طرح ھے کہ حیات انسانی دو طرح کے افعال کا مجموعہ ھے ' ایک تو وہ جو ھمارے قصد اور ارادے کے ماتحت عمل میں آتے ھیں مثلاً فکر و تعقل اور دوسرے وہ جن کے صدور میں ھمارے قصد و ارادہ کو کوئی دخل نہیں ھے مثلاً دوران خون و عمل تنفس وغیرہ - لیکن اس تقسیم پر ایک یہ اعتراض وارد ھوتا ھے کہ ماھیت نفس کی بحث میں یہ کہا گیا ھے کہ نفس کا ھر فعل ارادی ھوتا ھے ' لیکن یہاں بعض افعال حیات انسانی کو غیر ارادی مانا جاتا ھے اس کے یہ معنی ھوئے کہ ھم بعض افعال نفس انسانی کو غیر ارادی بھی مانتے ھیں اور چونکہ نفس انسانی بھی نفس کی ایک متعین صورت ھی ھے کوئی جداگانہ حقیقت نہیں ' اس طرح حقیقتاً بعض افعال نفس ھی کو غیر ارادی مانا جاتا ھے اور یہ صریحی تناقض ھے ؟

افعال ارادی و غیر ارادی

یہ ھمارا روز مرہ کا مشاھدہ ھے جس کے لئے کسی دلیل کی احتیاج نہیں کہ ھماری زندگی کے افعال مختلف نوعیت کے ھیں بعض تو ایسے ھیں جو ھمارے قصد اور ارادے کے ماتحت عمل میں آتے ھیں اور بعض ایسے ھیں جو ھمارے قصد اور ارادے کے ماتحت عمل میں نہیں آتے ھیں ' اِس تمیز و تفریق سے یہ معلوم ھوتا ھے کہ افعال حیات انسانی کے دو مختلف مراکز ھیں' انانیت جو مصدر و مرکز افعال ارادی ھے اور طبیعت جو مصدر و مرکز افعال غیر ارادی ھے - اب جو اعمال ھمارے ارادے یا ارادۂ انانیت کے ماتحت عمل میں آتے ھیں وہ ارادی سمجھے جاتے ھیں اور جو ھمارے ارادے یا ارادۂ انانیت کے ماتحت عمل میں نہیں آتے ھیں وہ غیر ارادی سمجھے جاتے ھیں -

افعال حیات انسانی کے دو مختلف مراکز

دوسری طرح تقسیم افعال حیات انسانی کی اس طرح ھے کہ حیات انسانی دو طرح کے افعال کا مجموعہ ھے ، ایک تو وہ جو ھمارے قصد اور ارادے کے ماتحت عمل میں آتے ھیں مثلاً فکر و تعقل ارر دوسرے وہ جن کے صدور میں ھمارے قصد و ارادہ کو کوئی دخل نہیں ھے مثلاً دوران خون و عمل تنفس وغیرہ - لیکن اس تقسیم پر ایک یہ اعتراض وارد ھوتا ھے کہ ماھیت نفس کی بحث میں یہ کہا گیا ھے کہ نفس کا ھر فعل ارادی ھوتا ھے ، لیکن یہاں بعض افعال حیات انسانی کو غیر ارادی مانا جاتا ھے اس کے یہ معنی ھوئے کہ ھم بعض افعال نفس انسانی کو غیر ارادی بھی مانتے ھیں اور چونکہ نفس انسانی بھی نفس کی ایک متعین صورت ھی ھے کوئی جداگانہ حقیقت نہیں ، اس طرح حقیقتاً بعض افعال نفس ھی کو غیر ارادی مانا جاتا ھے اور یہ صریحی تناقض ھے ؟

افعال ارادي و غير ارادی

یہ ھمارا روز مرہ کا مشاھدہ ھے جس کے لئے کسی دلیل کی احتیاج نہیں کہ ھماری زندگی کے افعال مختلف نوعیت کے ھیں بعض تو ایسے ھیں جو ھمارے قصد اور ارادے کے ماتحت عمل میں آتے ھیں اور بعض ایسے ھیں جو ھمارے قصد اور ارادے کے ماتحت عمل میں نہیں آتے ھیں ، اِس تمیز و تفریق سے یہ معلوم ھوتا ھے کہ افعال حیات انسانی کے دو مختلف مراکز ھیں ،

افعال حیات انسانی کے دو مختلف مراکز

انانیت جو مصدر و مرکز افعال ارادی ھے اور طبیعت جو مصدر و مرکز افعال غیر ارادی ھے - اب جو اعمال ھمارے ارادے یا ارادۂ انانیت کے ماتحت عمل میں آتے ھیں وہ ارادی سمجھے جاتے ھیں اور جو ھمارے ارادے یا ارادۂ انانیت کے ماتحت عمل میں نہیں آتے ھیں وہ غیر ارادی سمجھے جاتے ھیں -

مانا کہ جو افعال ہمارے ارادے کے ماتحت عمل میں نہیں وہ غیر ارادی ہوتے ہیں ، لیکن سوال تو یہ نہیں کہ ہم کس نوع کے افعال کو غیرارادی کہتے ہیں ، سوال تو یہ ہے کہ آیا کوئی فعل حیات انساني ، غیر ارادی ہوتا بھی ہے ؟ غور فرمائیے کہ ہم حیات غیر شاعرہ کے جن افعال طبیعی کو غیر ارادی سمجھتے ہیں آیا وہ کسی غرض و غایت پر مبنی ہوتے ہیں یا نہیں ؟ یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ وہ کسی غرض و غایت پر مبنی نہیں ہوتے ، یہ خلاف قیاس ہے کہ حیات طبیعی یا حیات غیر شاعرہ جو بجائے خود ایک مکمل نظام رکھتی ہے ، ایسے افعال کا مجموعہ ہو جن کی نہ کوئی غرض ہو نہ غایت ، لا محالہ ماننا ہوگا کہ ہر فعل حیات غیر شاعرہ بھی غرض و غایت پر اُسی طرح مبنی ہوتا ہے جس طرح حیات شاعرہ کا ہر فعل ، مطلب یہ کہ جس طرح ہمارا ہر ارادی فعل کوئی نہ کوئی غرض و غایت رکھتا ہے اِسی طرح حیات غیر شاعرہ کا کوئی فعل ایسا نہیں ہوتا جس کی کوئی غرض و غایت نہ ہو - حیات غیر شاعرہ کے افعال ، جذب غذا ، دفع فضول ، عمل تنفس ، دوران خون وغیرہ ایسے افعال نہیں جن کے اغراض و مقاصد کا سمجھنا کوئی دشوار امر ہو - بہر حال اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ افعال حیات غیر شاعرہ بھی اسی طرح اغراض و مقاصد پر مبنی ہوتے ہیں جس طرح حیات شاعرہ کے افعال - اِس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اگر ایسے افعال کو بھی ، جن کی بنا اغراض و مقاصد پر ہو غیر ارادی سمجھا جا سکتا ہے ، تو پھر افعال ارادی و غیر ارادی میں مابہ الامتیاز کیا باقی رہ جاتا ہے ؟

حقیقت اتنی ہی ہے کہ اگرچہ حیات غیر شاعر کے افعال بھی غیر ارادی نہیں ہوتے لیکن ہم اُن کو اس لئے ارادي نہیں سمجھتے کہ وہ ہمارے

ارادے یا ارادہ انانیت کے ماتحت عمل میں نہیں آتے - اگر ہم یہ معلوم کر سکیں ہم اور ہمارا ارادہ یا انانیت و ارادہ انانیت کیا ہے تو افعال ارادی و غیر ارادی کی کوئی الجھن بغیر سلجھے نہ رہ جائے -

ماہیت نفس کی بحث میں یہ کہا جا چکا ہے کہ جب نفس (نفس مطلق) اعراض جسمانیت انسان سے متعلق ہوتا ہے تو نفس انسانی سمجھا جاتا ہے اور اگر انواع حیات انسانی کا لحاظ کیا جائے تو جب اعراض حیات شاعرہ سے متعلق ہوتا ہے تو انانیت اور جب اعراض حیات غیر شاعرہ سے متعلق ہوتا ہے تو طبیعت قرار دیا جاتا ہے -

اس کثرت تعینات نفس کا سبب یہ ہے کہ اس عالم اجسام میں مختلف انواع اجسام ہیں اور ہر نوع کا نظام جسمانی کچھہ نہ کچھہ تخصیص ضرور رکھتا ہے اور یہ بحث حیات میں کہا جا چکا ہے کہ حرکات یا افعال نفس ، نظام جسمانیت ہر نوع کے مناسب ہوتے ہیں ، اس طرح تفریق نوعیت اجسام سے افعال نفس کے بھی مختلف انواع ہو جاتے ہیں - اب انہیں مختلف انواع افعال کے اعتبار سے نفس جمادی ، نفس نباتی ، نفس حیوانی اور نفس انسانی کی تمیز و تفریق ہوتی ہے - اگرچہ وحدت نفس فی نفسہ کثرت کو قبول نہیں کرتی مگر بر بنائے اختلاف اعمال امتیازاً مختلف ناموں سے موسوم ضرور ہوتی ہے -

نظام حیات شاعرہ جن افعال کا مقتضی ہے وہ یہی افعال ہیں جن کو امتیازاً افعال ارادی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور نفس کو اِنہیں افعال مخصوص کے محرک ہونے کی حیثیت سے انانیت قرار دیا جاتا ہے - اصل میں ہماری انانیت ، نفس کی ایک متعین صورت ہے ، جس کی تشکیل اُن مخصوص افعال ہی سے ہوتی ہے جن کے صدور کا نظام حیات

انانیت و طبیعت

شاعرہ مقتضی ھے - جس طرح نفس اپنے ان مخصوص افعال کے صدور کی بنا پر جن کے صدور کا نظام حیات شاعرہ مقتضی ھے ، انانیت کہلاتا ھے ، یوھیں اُن غیر مخصوص افعال کے صدور کی بنا پر جن کے صدور کا نظام حیات غیر شاعرہ اور نظام حیات دیگر انواع مقتضی ھے ، طبیعت کہلاتا ھے -

ارادۂ انانیت

ماھیت انانیت معلوم کرنے کے بعد یہ سمجھہ لینا کچھہ دشوار نہیں کہ ھم جس حرکت کو ارادۂ انانیت یا اپنا ارادہ کہتے ھیں وہ اگرچہ نفس [۱] کا ایک ارادی فعل ھوتا ھے مگر بعینہ ارادۂ نفس نہیں ھوتا ، یعنی ارادۂ انانیت ، ایک فعل نفس ھوتا ھے ارادۂ نفس نہیں ھوتا [۲] - یوھیں جس حرکت طبیعی کو ھم ایک فعل غیر ارادی کہتے ھیں ، وہ بھی نفس کا ایک ارادي فعل ھوتا ھے مگر فرق یہ ھے کہ حدوث انانیت میں نفس کا ارادی فعل ھمیں اپنا یا انانیت کا ارادی فعل معلوم ھوتا ھے [۳] اور حدوث طبیعت میں نفس کا ارادی فعل چونکہ اُس کے صدور سے ھماری انانیت غیر متعلق ھوتی ھے ، اِس

---

[۱] نفس سے مراد یہاں ، نفس انسانی نہیں بلکہ مطلق نفس ھے -

شعور انانیت

[۲] جس طرح ارادۂ انانیت ، نفس کا ایک عمل مخصوص و متعین ھے ، ارادۂ نفس نہیں ، اِسی طرح شعور انانیت بھی نفس کا ایک متعین فعل ھے ، بعینہ شعور نفس نہیں ، کہنا یہ ھے کہ ھماری انانیت کا یا ھمارا شعور ارادہ از قبیل افعال نفس ھے ، شعور و ارادۂ نفس نہیں -

[۳] یہ شعور نتیجہ ھوتا ھے ، حیات شاعرہ کے نظام شعور یعنی ذھنیت کا کہ ھم نفس کے ارادی افعال کو اپنے ارادی افعال سمجھتے ھیں اور اِس کی ابتدا اِس طرح ھوتی ھے کہ پہلے ھم اپنی ایک ممتاز شخصیت محسوس کرتے ھیں جس کو ھم ، لفظ آنا یا میں یا ھم سے تعبیر کرتے ھیں پھر اِس امتیاز شخصیت کے ساتھہ افعال ارادی کا تعلق محسوس ھوتا ھے -

لئے غیر ارادی معلوم ھوتا ھے - اس طرح معلوم ھوا کہ افعال حیات انسانی میں ارادی و غیر ارادی کی تفریق باعتبار انانیت ھے ، ھمیں اپنے یا اپنی انانیت کے افعال کے مقابلے میں افعال طبیعی غیر ارادی معلوم ھوتے ھیں ، ورنہ حقیقتاً نفس کے اعتبار سے نفس کا کوئی فعل غیر ارادی نہیں ھوتا - چونکہ افعال ارادی و غیر ارادی کی تفریق ان مختلف اعتبارات سے اس لئے کوئی تناقض نہیں -

یہ مان کر کہ افعال حیات انسانی اپنی نوعیت کے اعتبار سے دو طرح کے ھوتے ھیں - یعنی افعال ارادی و غیر ارادی ، اب ھم افعال ارادی و غیر ارادی کی صراحت کرتے ھیں -

صراحت انواع افعال ارادی و غیر ارادی

اصناف نوع افعال ارادی ، تعقل (سوچنا سمجھنا) ، ارادت [۱] (کسی عمل کا ارادہ کرنا) اور تعمل (کوئی عمل کرنا) ھیں

اصناف نوع افعال غیر ارادی ، تغذیہ (جذب غذا ، ضمناً دفع فضول) تنمیہ (نشو و نما) اور تولید مثل ھیں -

اس کے بعد آپ یہ معلوم کرنے کے لئے کہ ھم کس طرح سوچتے سمجھتے ھیں ، تعقل و اصول تعقل و ذرائع تعقل یعنی نظام ذھنیت کیا ھے ، ارادہ کسے کہتے ھیں ، محرکات ارادہ کیا ھوتے ھیں اور حیات غیر شاعرہ یا حیات طبعی تفصیلاً کیا ھے ، تفصیلات فصول آئندہ کو غور سے دیکھئے -

---

[۱] ارادت ، ھمارے نزدیک ارادت یعنی ارادہ عمل بھی نفس انسانی کا ایک ارادی فعل ھے اس لئے کہ نفس انسانی کسی ارادے پر مجبور نہیں اگرچہ محرکات ارادہ مقتضی ارادہ ھوں -

تفکر و تعقل

آپ کو معلوم ہے کہ قصر فکر و تعقل کی بنیاد اساسی یہی حواس ہیں جنہیں حواس ظاہری کہتے ہیں ، یہ حیات شاعرہ میں اس قدر اہمیت رکھتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوں تو ہم اپنے پرائے سبھی سے نا آشنا ہو جائیں - کسی ایسے شخص کے حال پر غور کیجئے جس کا بدن تو سُن ہو اور وہ اس کے ساتھہ ہی آنکھہ کان اور قوت شامہ و ذائقہ سے محروم ہو -

بعض اوقات جب ہم کسی گہرے خیال میں ڈوب جاتے ہیں تو ہمیں کسی بات کا ہوش نہیں ہوتا ، نہ کچھہ دکھائی دیتا ہے ، نہ کچھہ سنائی دیتا ہے) اس حال میں اور کیا ہوتا ہے ، یہی تو کہ ہمارے عدم التفات کی وجہ سے ، ہمیں اُن چیزوں کا شعور نہیں ہوتا جو ہمارے احساسات ظاہری پر اپنا اثر ڈالتی ہیں ، اس سے ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اگرچہ ہمارے ادراک کی ابتدا احساس ہوتی ہے ، لیکن کسی شے کے ادراک کے لئے تنہا احساسات ظاہری ہی کافی نہیں ، اور بھی کچھہ ذرائع ہیں ، منجملہ اُن کے التفات نفس بھی ہے کہ بغیر التفات نفس ہمیں شعور محسوسات نہیں ہوتا ، اسی طرح کچھہ اور ذہنی قوتیں ہیں ، جو معاون ادراک ہیں - لیکن وہ کون کون سی ہیں ؟ اس کا علم معمولی طور پر ، جب ہمارا ذہن اپنا کام کرتا ہوتا ہے ، تو ہمیں نہیں ہوتا - البتہ جب کوئی فرق ہمیں اپنے یا پرائے ذہنی کاموں میں مقابلۃً معلوم ہوتا ہے تو سمجھہ میں آتا ہے کہ ہماری اپنی یا پرائی ذہنیت میں کیا نقص ہے - یعنی یہ تفریق کس قوت کے نقصان سے وابستہ ہو سکتی ہے - اس کو اس طرح سمجھئے ، فرض کیجئے —

۱— ایک شخص ھے جو مادرزاد اندھا اور بہرا ھے ، ھم دیکھتے ھیں کہ وہ کسی شے کے متعلق بہت کم واقفیت حاصل کر سکتا ھے - نظام ذھنیت اس سے یہ اندازہ ھوتا ھے کہ احساسات ظاھری ، یعنی حواس ، کہاں تک معاون ادراک ھیں -

۲— ھم کسی خاص خیال میں مستغرق ھو جاتے ھیں ، اس حالت میں ، ھمیں کچھہ سنائی دیتا ھے نہ کچھہ دکھائی دیتا ھے - اس سے ھم اس نتیجہ پر پہونچتے ھیں کہ ادراک میں توجہ نفس کو بڑا دخل ھے -

۳— عام طور پر دنیا بعض چیزوں کو دلکش سمجھتی ھے - کون ھے جسے مرغزار و آب رواں کے نظارے باعث تفریح نہ ھوتے ھوں ، مگر ایک شخص ھے کہ اس پر کسی دلچسپ سے دلچسپ منظر کا کوئی اثر ھی نہیں پڑتا ، کسی قسم کے آثار شگفتگی ھی اُس میں پیدا نہیں ھوتے - یہ غیر معمولی تفریق دیکھکر خیال ھوتا ھے کہ یہ شخص مردہ‌دل ھے ، اس کی طبیعت میں اس قسم کے حسیات ھی نہیں ھیں - یہ ھے نقصان احساسات نفس-

۴— ایک شخص بڑی گرمجوشی سے ملتا ھے ، لیکن ھم اُس کی صورت دیکھتے ھیں ، وہ اپنے تعلقات سابقہ یاد بھی دلاتا ھے لیکن پھر بھی خیال نہیں آتا ، یہ ھے قوت حافظہ کا نقص -

۵— اگرچہ بارھا ایک ھی قسم کے واقعات کے اجتماع سے ایک ھی قسم کے نتائج ایک شخص دیکھہ چکا ھے مگر پھر بھی اُسی قسم کے اسباب کو مجتمع دیکھکر اُس کا ذھن نتیجہ کی طرف منتقل نہیں ھوتا - مثلاً اُس نے سرکہ جب استعمال کیا کھانسی بخار میں مبتلا ھو گیا

مگر آپ پھر استعمال کر رہا ہے اور اُس کا ذہن مطلقاً تجربات سابقہ کی طرف منتقل نہیں ہوتا، یہ ہے نقصان یا فقدان، قوت انتقال ذہن کا۔

۶۔ بعض اشخاص معمولی معمولی باتوں سے، خلاف قیاس عجیب عجیب نتائج نکالتے ہیں، مگر ہم میں یہ بات نہیں کہ کسی کے چیں جبیں کو علامت غم پنہاں سمجھیں، معلوم ہوا کہ یہ کام، قوت واہمہ کا ہے۔

اس طرح معلوم ہوا کہ ذرائع تفکر حسب ذیل ہیں:

۱۔ حواس ظاہری اور یہ تمام ذرائع پر مقدم ہیں۔

۲۔ توجہ نفس۔

۳۔ احساسات نفس۔

۴۔ قوت حافظہ۔

۵۔ قوت انتقال ذہن۔

۶۔ قوت واہمہ۔

یہ ہے نظام ذہنیت، اگر اس نظام سے ایک شے بھی نکال لی جائے تو پورا نظام بیکار ہو جاتا ہے۔

جب ہم کسی نامعلوم شے کے متعلق کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اِنہیں ذرائع سے کام لیتے ہیں، اسی عمل کا نام، عمل فکر و تعقل ہے، لیکن یہ ذرائع کس طرح اور کہاں تک معاون تعقل ہیں، یہ معلوم کرنے کے لئے فرداً فرداً ہر ذریعۂ تفکر پر غور کرنا ہوگا۔

حواس

ماہیت احساس

اگر آپ ماہیت احساس پر غور کریں تو احساس کو ایک طرح کی حرکت انفعال و تاثر پائینگے ، جس طرح ، حرارت ، روشنی ، آواز وغیرہ ، مختلف عوامل موثرہ فضائے متصل میں ایک تموج پیدا کر دیتے ہیں یوہیں موثرات مختلفہ کے اثر سے اعصاب احساس میں ایک حرکت انفعال و تاثر پیدا ہوتی ہے ، اُسی کو ہم احساس یا کسی شے کا محسوس ہونا کہتے ہیں - معمولی طور پر تو ہمیں اُس حرکت کا جو احساس کہلاتی ہے اس طرح تمیز نہیں ہوتا کہ ہم اُسے کسی قسم کی ، کوئی حرکت سمجھہ سکیں مگر جب موثرات شدید و قوی ہوتے ہیں تو نمایاں طور پر محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اشیائے خارجی کے اثر سے اعصاب احساس میں کوئی حرکت پیدا ہوتی ہے ، سخت چیخ پکار سے کانوں میں جھنجھناہٹ پیدا ہو جاتی ہے ، تیز روشنی سے آنکھوں میں چکاچوند ، تلملاہٹ (خیرگی) پیدا ہو جاتی ہے ، زیادہ ترش چیزوں سے زبان اذیت پاتی ہے ، سخت سردی میں جسم سن ہو جاتا ہے ، اسی طرح ارر شدید موثرات کا اثر نمایاں طور پر معلوم ہوتا ہے - اسی سے ہم اس نتیجہ پر پہونچتے ہیں کہ کیفیت احساس ایک حرکت انفعال و تاثر ہے -

چونکہ کائنات خارجی (خارج از نفس) مختلف اعراض کا مجموعہ ہے ، اس لئے اُس کا احساس بھی مختلف حواسوں سے ہوتا ہے ، آواز کانوں سے ، ذائقہ کام و زبان سے ، بو ، ناک سے ، شکل ، رنگ فاصلہ وغیرہ ، آنکھہ سے ، گرمی سردی ، سختی نرمی ، جسامت وغیرہ چھونے سے معلوم ہوتی ہے -

شرایط احساس

مگر احساس کے لئے دو لازمی شرطیں ھیں ، ایک کا تعلق تو نظام جسمانی سے ھے یعنی تنظیم نظام اعصاب احساس اور دوسری کا تعلق خود نفس سے ھے یعنی نفس کا آمادۂ احساس ھونا یا التفات نفس -

پہلی شرط کی اھمیت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ جب بعض امراض دماغی کی حالت میں ، نظام عصبی میں کچھہ نقص پیدا ھو جاتا ھے تو ذھن کسی شے کو محسوس ھی نہیں کر سکتا مثلاً خدر یعنی سن کے عارضہ میں احساس لمس جاتا رھتا ھے یا غشی و بے ھوشی میں کہ جسم ھر حاسے کے اعتبار سے بے حس ھو جاتا ھے - اسی طرح نفس کا آمادۂ احساس ھونا یعنی توجہ و التفات نفس بھی ایک لازمی شرط ، احساس کے لئے ھے ، جب ھم کسی گہرے خیال میں ڈوب جاتے ھیں تو نہ کوئی بات سنائی دیتی ھے نہ کچھہ دکھائی دیتا ھے ، حالانکہ اعصاب بصر پر ، مرئیات (دکھائی دینے والی چیزیں) اور اعصاب سماعت پر آوازیں ، اپنا اثر ڈالتی ھیں لیکن عدم التفات نفس کی وجہ سے ھمیں اُن کا شعور نہیں ھوتا ، یعنی اعصاب احساس کو احساس تو ھوتا ھے مگر نفس کو شعور نہیں ھوتا (اس طرح اور اس صورت میں کسی شے کا احساس، عدم احساس کے برابر ھوتا ھے یا محسوس ھونا ، محسوس نہ ھونے کے مرادف ھوتا ھے -

تفریق احساس و شعور

اسی سے یہ معلوم ھوتا ھے کہ احساس و شعور دو جداگانہ چیزیں ھیں ، کیفیت احساس وہ حرکت ھے جو موثرات کے اثر سے، اعصاب میں پیدا ھوتی ھے اور شعور وہ تکیف نفس ھے ہو ممیز کیفیت احساس ھے - اس کو ایک مثال کے ذریعہ سے سمجھئے - ض کیجئے ، ھمارے جسم پر کوئی چنگاری پڑ جاتی ھے اور ھمیں جلن

معلوم ہوتی ہے تو یہ جلن وہ کیفیت ہے جو اعصاب احساس میں پیدا ہوتی ہے اور معلوم ہونا جسے کہتے ہیں یہ وہ کیفیت ہے جو خود نفس میں پیدا ہوتی ہے - غور کرنے سے دونوں کیفیتوں میں فرق معلوم ہوتا ہے ، پہلی کیفیت احساس ہے اور دوسری کیفیت جو پہلی کیفیت کی ممیز ہے ، شعور ہے ، اس طرح احساس کیفیت عصبی اور شعور کیفیت نفسی ہے - یہ ہے تفریق احساس و شعور -

توجہ نفس

دوسرا ذریعۂ تعقل ، توجہ نفس ہے - توجہ نفس کیا ہے ؟ نفس کی ایک حرکت ذہنی جو تمام ذہنی قوتوں کو ایک مرکز پر جمع کر لیتی ہے ؛ کبھی وہ مرکز کوئی تصور ہوتا ہے ، کبھی کوئی تاثر یعنی اس آمادگی جمعیت خاطر کے لئے کچھ نہ کچھ اسباب و محرکات ضرور ہوتے ہیں ، مثلاً کبھی کسی شے سے دلچسپی جانب توجہ ہوتی ہے اور کبھی کسی شے کی اہمیت کا احساس یا جذبات غم و الم و شوق و محبت وغیرہ -

برخلاف اس کے ہمارا نفس ان امور کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا ، جن سے اُسے دلچسپی نہ ہو - جن میں کوئی کشش نہ ہو - جن میں کوئی اہمیت نہ ہو یا جو موثر نفس نہ ہوں - یہی وجہ ہے کہ مختلف امور سے دلچسپی کے مدارج مختلفہ کے ساتھ توجہ نفس کے درجات بھی مختلف ہوتے ہیں -

احساسات نفس

۱ــ آنکھوں سے تو ہم کو شکل و صورت اور متعلقات نظر ہی معلوم ہوتے ہیں ، لیکن بلا تامل و تفکر کسی شے کے دلکش ہونے کا فیصلہ ہم کیونکر کر لیتے ہیں ؟

۲۔ کانوں سے تو صرف آواز ہی سنائی دیتی ہے، نغمات اور کرخت آوازوں میں اس اعتبار سے امتیاز کہ نغمات کو دلنواز اور کرخت آوازوں کو جانفزا سا قرار دیا جائے کس حاسہ کا کام ہے؟

۳۔ کسی شخص کی مصیبت کا حال سنکر ہمارا دل کیوں بھر آتا ہے؟

۴۔ بعض امور ہم کو شرمناک کیوں معلوم ہوتے ہیں؟

۵۔ مرغزار و آب رواں کے نظارے باعث تفریح کیوں ہوتے ہیں؟

۶۔ ان امور کا اندازہ کون کرتا ہے؟

آپ یہی کہینگے کہ ہمارا دل، نہیں وہ احساسات نفس ہی ہیں، جو ان امور کا اندازہ کرتے ہیں نہ یہ کام ظاہری حواسوں کا ہے نہ غور و فکر کا۔

اشیائے کائنات میں بعض خصوصیات تو ایسی ہوتی ہیں، جن کو ہم اپنے ظاہری حواسوں ہی سے محسوس کر لیتے ہیں، یعنی تمام مظاہر شکل، آوازیں، خوش بو، بدبو، ذائقے، گرمی - سردی، سختی، نرمی، وزن اور جسامت وغیرہ - اور بعض ایسی کہ اُن کا علم بغیر غور و فکر و تجربہ و مشاہدہ ہم کو نہیں ہوتا - مثلاً اشیا کے مخفی خواص یا اُن کے منافع و مضار -

یہ دونوں قسم کی خصوصیتیں جب ہمارے علم میں آجاتی ہیں تو ان میں سے بعض کو نفس پسند کرتا ہے، بعض کو نا پسند، بعض کو قبول کرتا ہے، بعض کو رد بعض کو اچھا سمجھتا ہے، بعض کو برا، کوئی شے گوارا ہوتی ہے، کوئی ناگوار -

از
ضامن نقوی

یہ مرغوب و غیر مرغوب کی تمیز و تفریق احساسات نفس ھی سے وابستہ ھے - اگر یہ احساسات نہ ھوتے تو نہ ھم کسی شے کو پسند کر سکتے تھے' نہ کسی کو ناپسند - یعنی نہ کسی شے کو پسندیدہ کہہ سکتے تھے نہ کسی کو ناپسندیدہ -

اس طرح اشیاء کے حسن و قبح کا ادراک ' احساسات نفس ھی سے متعلق ھے اور اس طرح احساسات نفس ھی فارق زشت و خوب ھیں -

اگر یہ کہا جائے کہ اشیاء کے حسن و قبح ' اچھائی برائی کا ادراک تو عقل سے وابستہ ھے نہ کہ احساسات نفس سے یعنی ھم عقل سے کسی شے کو پسندیدہ نا پسندیدہ سمجھتے ھیں ' کسی حاسہ سے نہیں ؟

اشیاء کی وہ خصوصیتیں جن کو ھم اپنے ظاھری حواسوں سے محسوس کر لیتے ھیں ' ان کا پسند ناپسند کرنا ' بالکل کھلی ھوئی بات ھے کہ حسیات نفس ھی کا کام ھے - اب رھیں وہ خصوصیتیں جن کا علم تجربہ و مشاھدہ سے ھوتا ھے یا جن کو ھم مفید و مضر تجربہ و مشاھدہ سے سمجھتے ھیں - غور کرنے سے معلوم ھو سکتا ھے کہ ان کا پسند و ناپسند کرنا بھی نفس ھی کا کام ھے ' اس لئے کہ عقلاً ' تو ھم نے اس قدر معلوم کیا کہ یہ شے معاون مقاصد حیات ھے اور یہ شے مخالف لیکن مضر و مفید کو پسند و ناپسند کرنا تو احساسات نفس ھی کا کام ھے - مثلاً ھم گلاب کا پھول دیکھتے ھیں ' اس کی خوشبو سونگھتے ھیں - وہ ھمیں خوشنما معلوم ھوتا ھے ' ھمارا نفس اُسے پسند کرتا ھے ' یہاں گلاب کی شکل ' رنگ اور خوشبو وغیرہ یہ تمام خصوصیتیں ایسی ھی تھیں کہ جن کو ھم نے ظاھری حواسوں سے محسوس کیا اور نفس نے اُنھیں پسند کر لیا اور گلاب کو ایک پسندیدہ شے سمجھا -

اب گلاب میں بعض خصوصیتیں تجربے سے ایسی بھی معلوم ہوتی ہیں جن کا احساس براہ راست ظاہری حواس نہیں کر سکتے یعنی دوا اس کا مفید صحت ہونا یا دافع مرض ہونا ، اس اعتبار سے بھی نفس ہی ، گلاب کو بہ اعتبار اس کے مفید صحت ہونے کے بھی پسند کرتا ہے -

حقیقت یہ ہے کہ پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے تمام تاثرات نفس ہی میں پیدا ہوتے ہیں اور بنیاد ان تاثرات کی احساسات نفس ہی ہیں ، نفس ہی میں بطور خود استعداد عوامل مختلفہ کے تمیز و تفریق کی ہے -

اگر یہ کہا جائے کہ بعض اشخاص ایک شے کو مرغوب سمجھتے ہیں ، بعض اُسی کو مکروہ ، یہی حال تمام محسوسات و مدرکات کا ہے ، کسی کو کچھہ پسند ہے تو کسی کو کچھہ ، اس صورت میں ، احساسات نفس کی بنا پر ، کوئی عام حکم کسی شے کے اچھے یا برے ہونے کا کیوں کر لگایا جا سکتا ہے - اور اس صورت میں یہ احساسات کسی صحیح علم کا معیار کیونکر ہو سکتے ہیں ؟

احساسات نفس ، اپنی نوعیت کے اعتبار سے تین قسموں میں فطرتاً منقسم ہیں ، یعنی احساسات نوعی ، احساسات صنفی یا قومی ، احساسات شخصی -

احساسات نوعی وہ احساسات ہیں جو ہر انسان میں مشترک ہوتے ہیں ، صنفی وہ احساسات ہیں جو ہر صنف انسان میں حالات اصناف کے اختلاف و اختصاص کی وجہ سے خاص ہوتے ہیں ،

اور شخصی وہ احساسات ہیں جو ہر شخص میں اس کے شخصی افکار و حالات کے اختلاف و تخصیص کی بنا پر ، مخصوص تر ہوتے ہیں -

اس طرح ہر شخص میں تین قسم کے احساسات ہوتے ہیں ، نوعی ، صنفی اور شخصی -

اس صورت میں نوعی احساسات کی بنا پر جو حکم کسی شہ کے متعلق ، اُس کے پسندیدہ یا ناپسندیدہ ہونے کے اعتبار سے یا مرغوب و غیر مرغوب یا باعث انبساط و انقباض ہونے کے اعتبار سے لگایا جائیگا ، اس کی صحت میں کیا شک ہو سکتا ہے -

عام طور پر انسان جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے ، اُن کے ناپسندیدہ ہونے میں کس کو تامل ہو سکتا ہے ؟ اب رہے وہ حسیات جن کا تعلق صرف اصناف و اشخاص ہی سے ہے اُن کی بنا پر البتہ کوئی عام حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے - اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ

وہ احسات جو جملہ افراد انسانی میں پائے جاتے ہیں یعنی نوعی احساسات یہ ہیں -

۱ — احساس انانیت یعنی اپنی انانیت کا احساس ، یہ وہ احساس ہے جس کی بنا پر انسان خود اپنی ذات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے -

۲ — احساس غیرت ، شرمناک امور کا اندازہ اِسی حاسے سے ہوتا ہے -

۳ — احساس شجاعت ، مخالفات عزت و غیرت اسی کی بنا پر قابل مدافعت معلوم ہوتے ہیں -

۴ — احساس غضب ، نامرضیات کا ممیز یہ حاسہ بھی ہے -

۵ — احساس رغبت ، اسی سے مرغوبات کا امتیاز ہوتا ہے -

۶ — احساس نفرت ، مکروہات کا امتیاز اسی سے وابستہ ہے -

۷—احساس محبت یا حاسہ جمال ، یہ حاسہ ، جمال کا (چاہے جمال ، صوری ہو یا معنوی) آئینۂ فطری ہے -

۸—احساس خوف ، خوفناک امور کا اندازہ اسی حاسہ سے ہوتا ہے -

۹—احساس مسرت ، مسرت بخش امور کا اندازہ کرنے والا حاسہ -

۱۰—احساس غم ، باعث غم ، احساس غم ہی سے معلوم ہوتا ہے -

۱۱—احساس رشک ، قابل رشک امور کا اندازہ اسی حاسے سے ہوتا ہے -

۱۲—احساس شوق علم ، علمی دلچسپی اسی حاسہ سے وابستہ ہوتی ہے -

۱۳—دوسروں کی مصیبت کا احساس یا حاسۂ ہمدردی -

۱۴—احساس منت‌پذیری یا احساس شکرگذاری -

۱۵—حاسہ ، ضمیر ، عملی زندگی میں امتیاز حقوق کرنے والا حاسہ -

۱۶—احساس حیرت ، حیرت انگیز امور کا احساس اسی حاسہ سے وابستہ ہے -

۱۷—احساس مزاح ، مضحک امور کا علم اسی حاسہ سے ہوتا ہے -

۱۸—ماں کی محبت اولاد کے ساتھہ ، اگرچہ احساس محبت ہی کی تحت میں ہے مگر باعتبار کیف ایک خاص امتیاز ضرور رکھتی ہے -

۱۹—احساس مدنیت یا حاسۂ تمدن‌پسندی -

یہ تو وہ بسیط احساسات ہیں جو فطرۃً نوع انسانی میں پائے [۱]

---

[۱] فطرۃً نوع انسانی میں پائے جانے کے معنی یہ ہیں کہ یہ احساسات داخل فطرت ہیں اگرچہ اظہار اُن کا تدریجاً ہوتا ہے ، ان میں سے بعض احساسات تو ایسے ہیں کہ اُن کے آثار زمانۂ شیرخوارگی ہی سے معلوم ہوتے ہیں مثلاً خوف ، غضب ، رغبت ، نفرت وغیرہ اور کچھہ ایسے ہیں جن کا اظہار تدریجاً نشو و نمائے ذہن کے ساتھہ ساتھہ ہوتا ہے -

جاتے ہیں اب انہیں احساسات کی بنا پر فہم سلیم کے اثر سے تمام کامل الفطرت انسانوں میں بعض مرکب احساسات بھی پیدا ہوتے ہیں ۔

مثلاً ۔ احساس شخصیت سے ، خودداری و خوداعتمادی ۔
احساس شجاعت سے ، استقلال ، ہمت ، اقدام ۔
احساس غضب سے ، تحمل سلبی طور پر اور احساس مدافعہ ایجابی طور پر ۔
احساس ہمدردی سے ، ایثار ، سخاوت ، رحم ، کرم ۔
احساس ضمیر سے ، دیانت ، امانت ، عدالت ، راستی ، ایفائے عہد ، خوش معاملگی ،
احساس غم سے ، صبر ، سلبی طور پر اور فریاد و اظہار غم ایجابی طور پر ۔
احساس منت پذیری سے ، احساس مدح وثنا ۔
احساس تمدن پسندی سے احساس سیاست ۔

اس طرح ، اس قسم کے تمام احساسات کا شمار بھی ، جو نوعی احساسات پر مبنی ہیں اور تمام کامل الفطرت انسانوں میں افکار صحیح کی آمیزش سے پیدا ہوتے ہیں ، احساسات نوعی میں ہے ۔

یہی وہ احساسات ہیں جن کی بنا پر ہم محسوسات و مدرکات کو قابل قبول ، مرغوب ، پسندیدہ ، گوارا ، اچھا ، اہم ، دلچسپ ، باعث تفریح ، موافق ، سکون بخش ، مسرت افزا ، جانفزا یا قابل رد ، غیر مرغوب ، ناپسندیدہ ، ناگوار ، برا ، غیر اہم ، غیر دلچسپ ، باعث تکلیف ، مخالف ، پریشان کن ، غم انگیز ، جانفرسا ، وغیرہ ناموں سے ایک کلیہ کے طور پر موسوم کیا کرتے ہیں ۔

فی الواقع یہ امور ، ان احساسات سے کہاں تک وابستہ ہیں ، اس کا اندازہ کرنے کے لئے ، ایک حاسۂ جمال ہی کو لے لیجئے ، اگر یہ حاسہ ہم میں نہ ہو تو لاکھ کوئی سمجھائے کہ بہار رنگیں ، زمردیں مرغزار ، شہابی شفق ، نیلگوں آسمان ، تاروں بھری رات ، مترنم آبشار ، پرسکوں وادی کوہسار ، سامعہ‌نواز نغمات ، اور تمام مناظر و مظاہر رنگ و بو ، دلکش و کیف‌پرور ہیں ، مگر ہم کسی طرح نہ مان سکینگے -

جب مظاہر جمال کي دلکشی کا احساس ، حاسۂ جمال هي پر منحصر ہو تو اشیاء کی دیگر خصائص زشت و خوب کا احساس ، دیگر احساسات پر کیوں نہ مبنی سمجھا جائے ؟

یہاں تک تو نوعی احساسات کی تشریح و توضیح تھی ، اب صنفی احساسات ملاحظہ فرمائے اور وہ یہ ہیں - احساس قومیت و وطنیت -

اپنی مخصوص معاشرت کی عزت و قدر -
اپنے مخصوص رسم و رواج کي خوبی کا احساس ع
خار وطن از سنبل و ریحان خوشتر -
شخصی احساسات کی تشریح یہ ہے -

اگر انسان کو باعتبار اشتراک نوعیت دیکھا جائے تو ہر انسان ، خواہ وہ دنیا کے کسی حصہ کا رہنے والا ہو اور کوئی زبان رکھتا ہو ، کسی وضع قطع اور صورت شکل کا ہو ، انسان ہے ، لیکن اگر باعتبار اختلاف صنفیت و شخصیت دیکھا جاے تو دو انسان کسی ایک بات میں بھی آپس میں نہیں ملتے ، قطع نظر وضع و لباس کے صورت کا اختلاف ، قد و قامت کا اختلاف ، خد و خال کا اختلاف ، زبان کا اختلاف ، یہ تو ظاہری اختلافات ہیں ، باطنی لحاظ سے ، دماغی ساخت کا اختلاف ، ذہنی قوتوں کا اختلاف ، افکار کا اختلاف ، اطوار کا اختلاف ، ایک دو اختلافات ہوں -

دیکھئے ایک ہی حقیقت یعنی نفس انسانی ، کس قدر مظاہر مختلفہ میں رونما ہے اور پھر بے سبب ، بغیر کسی نظام کے نہیں ، اشتراک و اختلاف کے بھی اسباب ہیں ۔

الف — اسی طرح ، اگرچہ احساسات نوعی تمام انسانوں میں مشترک ہوتے ہیں ، پھر بھی مرضیات و نامرضیات کا دائرہ ہر شخص کا کچھ نہ کچھ مختلف ہوتا ہی ہے - یعنی ہر شخص کے احساسات نوعی کے محسوسات میں کچھ تفریق ہوتی ہی ہے - اور یہ نتیجہ ہوتا ہے حالات گرد و پیش کے اختلاف کا ، مثلاً زید میں احساس نفرت ہے اور اس کی بنا پر وہ متعدد چیزوں کو قابل نفرت سمجھتا ہے جن میں سے کچھ تو ایسی ہیں جن سے تمام انسان نفرت کرتے ہیں اور کچھ ایسی ، جن سے اور لوگ تو نفرت نہیں کرتے صرف زید ہی اُن سے نفرت کرتا ہے ، مثلاً مشاغل میں ، اُسے سیر و تفریح سے نفرت ہے ، علوم میں ، ریاضیات سے نفرت ہے ، اخلاقیات میں ، تحمل کو بزدلی کا مرادف سمجھتا ہے ، یہ ہیں زید کے شخصی احساسات -

ب — چور ڈاکو ، بدمعاش ، دنیاکی نظر میں ذلیل ہوتے ہیں مگر وہ اپنے آپ کو ایسا نہیں سمجھتے ، یہ ہے شخصی احساس -

ج — بعض اشخاص میں ناقص الفطرت ہونے کی وجہ سے ، بعض نوعی احساسات جبلی طور پر نہیں ہوتے ، اس لئے اُن کے اضداد پائے جاتے ہیں مثلاً احساس غیرت نہیں ہوتا ، اس لئے بےغیرتی و بےحیائی پائی جاتی ہے حاسۂ شجاعت نہیں ہوتا ، اس لئے بزدلی پائی جاتی ہے ، یہ شخصی احساسات ہیں -

بعض اشخاص میں مخالف فطرت تعلیم و تربیت کے اثر سے بعض نوعی احساسات ضعیف و مردہ ہو جاتے ہیں اس صورت میں بھی حسیات

مردہ کے اضداد اُن مین پیدا ہو جاتے ہیں ' مثلاً احساس عزت کے بجائے دنائت ہمدردی کے بجائے بے رحمی ' سخاوت کے بجائے بخل اور یہ شخصی احساسات ہیں -

د—بعض اوقات ایک حاسہ دوسرے حاسہ سے مغلوب ہوکر ایک شخصی حاسہ کی بنیاد ہو جاتا ہے مثلاً غلبہ محبت ' تم عزت و آبرو سے بےنیاز کر دیتا ہے یا غلبۂ خوف و غضب میں انسان خلاف عزت و ضمیر باتوں کو اختیار کر لیتا ہے یہی صورت انتہائے رغبت یعنی حرص و ہوس میں ہوتی ہے ' -

ہ—بعض اوقات کوئی حاسۂ نوعی ' مشق یعنی عمل پیہم یا کسی شخص کی فطرت مخصوص کی وجہ سے ' غیر معمولی ارتقائی صورت اختیار کر لیتا ہے - مثلاً ہمدردی ایک حاسۂ نوعی ہے - مگر بعض اشخاص میں یہ حاسہ اس قدر بڑھ جاتا ہے یا پیدائشی طور پر بڑھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کسی شخص کي مصیبت دیکھ ہی نہیں سکتے - اس لئے ایسے مواقع سے گریز کرتے ہیں یا گریز کرنے لگتے ہیں -

و—بعض اوقات ' انحطاط احساسات سے بھی شخصی احساسات کی بنیاد پڑتی ہے - مثلاً حاسۂ رغبت کے انحطاط و تنزل غیر معمولی سے ایک عام بےرغبتی جو رہبانیت کے مرادف ہوتی ہے پیدا ہو جاتی ہے غرضکہ احساسات نوعی جب اپنی حدود سے متجاوز ہو جاتے ہیں تو شخصی احساسات کی صورت اختیار کر لیتے ہیں چاہے تجاوز ان کا اعتبار ارتقا ہو یا باعتبار انحطاط و تنزل -

ز—بعض اوقات دو حاسے شخصی و نوعی آپس میں مخلوط ہوکر ایک تیسرے شخصی حاسہ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں مثلاً احساس انتقام

و بزدلی یا پست ھمتی و رشک کی آمیزش سے حسد پیدا ھو جاتا ھے اور حسد ایک شخصی حاسہ ھے -

ح— دفع نامرضیات و حصول مرضیات کے ذرائع ھر شخص کے افکار و حالات کی بنا پر مختلف ھوتے ھیں ، اس طرح بعض شخصی احساسات بھی ھر شخص میں جداگانہ طور پر دفع مضرت جلب منفعت کی بنیاد ھوتے ھیں ، کوئی اکتساب معاش میں تجارت کو پسند کرتا ھے تو کوئی زراعت کو ، کوئی مجادلۂ حیات ، تنازعۃالبقا میں مدافعت بہتر سمجھتا ھے تو کوئی اقدام کو ترجیح دیتا ھے -

ط— اختلاف سن و سال کا اثر بھی احساسات پر ھوتا ھے - بعض چیزیں بچپن میں اچھی معلوم ھوتی ھیں مگر وہ جوانی میں مرغوب نہیں ھوتیں - اس طرح اقتضائے عمر سے بعض مخصوص شخصی اِحساسات پیدا ھو جاتے ھیں -

ی— بعض اوقات کوئی حاسہ تمام احساسات پر چھا جاتا ھے مثلاً انتہائے غم میں کوئی احساس انسان کو نہیں ھوتا یہ شخصی حاسۂ بے حسی ھے -

ک— اختلاف مزاج و ذھنیت سے بھی بعض جدید احساسات پیدا ھو جاتے ھیں - مثلاً بعض مشتعل مزاج بات بات میں مشتعل ھو جاتے ھیں ، یا بعض وھمی اشخاص بات بات میں وھم کرتے ھیں -

ل— امراض کا اثر بھی احساسات میں تبدیلی پیدا کر دیتا ھے اور بعض جدید احساسات پیدا ھو جاتے ھیں - خوش مزاج آدمی بد مزاج ھو جاتا ھے -

۴۔ جس طرح فہم سلیم کے اثر سے بعض بسیط نوعی احساسات سے تمام کامل الفطرت انسانوں میں کچھہ مرکب نوعی احساسات پیدا ھوتے ھیں اسی طرح افکار ناقص و کج فہمی سے بعض انسانوں میں انہیں بسیط نوعی احساسات سے کچھہ شخصی مرکب احساسات بھی پیدا ھو جاتے ھیں مثلاً

احساس شخصیت سے - غرور ، تکبر ، فخر و مباھات - غضب سے ، خصومت عام ، جدال پسندی -

اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ شخصی احساسات کیا ھیں اور وہ کس طرح پیدا ھوتے ھیں - احساسات شخصی کتنے ھی ھوں مگر اُن کی آفرینش بھی احساسات نوعی سے نفیاً یا اثباتاً کوئی نہ کوئی تعلق ضرور رکھتی ھے - اس طرح نوعی احساسات کے تعلق اور افکار و حالات کے اثر سے شخصی احساسات مرکب ھوتے ھیں اور یہی صورت صنفی احساسات کی بھی ھے - خلاصہ یہ ھے کہ -

احساسات نفس انسانی کی تقسیم و ترتیب یوں ھے -



اگر کہا جائے کہ احساسات نفس کا وجود تو تسلیم ، لیکن کوئی حاسۂ نفس فطری نہیں ھوتا صرف تعلیم و تربیت کے نتائج ھیں - چونکہ تعلیم و تربیت ھر شخص کی مختلف ھوتی ھے ، اس لئے احساسات بھی

مختلف ہوتے ہیں اور چونکہ یہ فطری نہیں ہوتے اس لئے اِن کی بنا پر کوئی عام حکم بھی نہیں لگایا جا سکتا ۔

یہ شبہ نتیجہ ہے ، حقائق فطرت سے ناواقفیت کا ، غور کیجئے بچے میں جب کچھ بھی تمیز نہیں ہوتا پھر بھی یہ امتیاز ہوتا ہے کہ لوریوں سے اُسے نیند آ جاتی ہے اور کرخت آواز کو سن کر سہم جاتا ہے اور رونے لگتا ، نفس کا یہ احساس ؛ ادراک جمالیات ، جسے کہنا چاہئے ، کچھ انسان ہی سے شروع نہیں ہوتا بلکہ جہاں سے آثار حیات نمایاں ہونا شروع ہوئے ہیں وہیں سے یہ احساس بھی نمایاں ہونا شروع ہوا ہے ، پھولوں اور پتیوں پر نغمات دلنواز کا اثر مشاہدہ کیا گیا ہے ۔ انسان تو انسان ہے ، چرند پرند اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں ۔ پھر انسان کو اپنی اولاد محبوب نہ معلوم ہو ، بچے جب پھولوں کو دیکھکر تالیاں بجاتے ہیں تو کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے ؟ یہ تو ذرا ہوشیار بچوں میں ہوتا ہے لیکن ۳ ۔ ۴ مہینے کا شیرخوار بھی چراغ کو دیکھکر اُس کی طرف نہایت خوشی سے ہمکتا ہے گویا کہ اس احساس میں وہ پروانے کا شریک ہے ۔

قوت حافظہ

وہ چیزیں جن کو براہ راست ہم حواسوں سے محسوس کرتے ہیں اور وہ جن کو اس طرح محسوس نہیں کر سکتے ، دونوں جب ایک دفعہ ہمارے علم میں آ جاتی ہیں تو اُن کي ایک یادداشت ہمارا ذہن رکھتا ہے ، وہ یادداشت کس ہیئت و شکل میں ہوتی ہے آیا کچھ نقوش ہوتے یا کوئی اور صورت انفعال ، ہنوز ہمیں اس کا علم نہیں ، اتنا جانتے ہیں کہ اگر کوئی شے حافظہ میں ہے تو وہ توجہ نفس کے ساتھ ہی سامنے آ جاتی ہے ۔ مدتوں کے گذرے ہوئے واقعات نظروں میں پھرنے لگتے ہیں ۔

واقعات زیست کی وسعت اور معلومات کی کثرت تو یہ چاہتی ہے کہ اگر یہ امور معرض تحریر میں لائے جائیں تو دفتر درکار ہوتے ' مگر قدرت نے یہ کام صرف مختصر سے دماغ [۱] سے اس طرح لیا ہے کہ اہل نظر متحیر ہیں ؛ سبحان اللہ گویا کہ ایک جرم صغیر ' آئینۂ عالم کبیر ہے یا ایک آبگینہ معلومات کا خزینہ ہے -

ہم کو اپنے حیات شاعرہ اور تعقل و تفکر میں قوت حافظہ کی کس حد تک ضرورت ہے ' اس کا اندازہ کرنے کے لئے آپ یہ سوچئے کہ اگر قوت حافظہ ہم میں نہ رہی تو ہمارا کیا حال ہو - ہم اُس بچے کی طرح ہو جائیں ' جس کا ذہن ہر قسم کے معلومات سے خالی ہوتا ہے - لیکن بچہ رفتہ رفتہ معلومات میں ترقی کرتا مگر ہم میں یہ بات بھی نہ ہو - ادھر ہم کسی شے کا علم حاصل کریں اور اُدھر بھول جائیں نہ کچھہ سوچ سکیں نہ سمجھہ سکیں انتہا یہ ہے کہ بات بھی نہ کر سکیں اس لئے کہ (بات کرنے کے لئے بھی لفظوں اور کلموں کی ضرورت ہو اور اُن سے ہمارا ذہن محروم ہو)

اِس سے آپ یہ سمجھہ سکتے ہیں کہ تعقل میں قوت حافظہ کہاں تک معین ہوتی ہے کہ جب ہم کسی امر پر غور کرتے ہیں تو معلومات کا تمام سرمایہ قوت حافظہ ہی سے مستعار لیتے ہیں -

قوت انتقال ذہن

ایک شخص ہے جس کو بڑی بڑی کتابیں زبانی یاد ہیں اور حواس بھی اُس کے درست ہیں - مگر جس موقعہ پر جس بات کے یاد آنے کی ضرورت ہے ' اسے یاد نہیں آتی ' زید نے بارہا اُس کے ساتھہ قریب کئے ہیں

---

[۱] دماغ ایک عضو مرکب مبدائے اعصاب ہے ' جو غشائیں و شرائیں و اوردہ و مخ یعنی مغز سے مرکب ہے ' تشریح کے لئے فن تشریحات بدن کی طرف رجوع کرنا چاہئے -

مگر پھر بھی وہ اُس کی باتوں میں آ جاتا ھے ، آپ کہیں گے کہ وہ بےوقوف ھے دیکھنا یہ ھے کہ اُس کے ذھنی قوتوں میں کیا کمی ھے ؟ قوت انتقال ذھن کا یہی کام ھے کہ ادنیٰ سی علامت مشابہ کی بنا پر ، تمام واقعات و حالات جنھیں کچھہ بھی تعلق صورت موجودہ سے ھو ھمارے سامنے لے آئے -

جب ھم کسی مسئلہ پر غور کرتے ھیں تو اس سے متعلق اس قدر مسلسل معلومات سامنے آتے ھیں کہ خیال ھوتا ھے کہ ذھن میں ھمارے معلومات بھی لغات کی طرح مرتب ھیں ، لغات میں الفاظ ردیف وار جمع ھوتے ھیں اور ذھن میں تصورات نوع بہ نوع -

اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ تفکر و تعقل میں کہاں تک یہ قوت معاون ھو سکتی ھے -

قوت واھمہ

جو چیزیں دنیا میں کہیں نہ ملیں ، اُن کو آپ عالم وھم میں تلاش کر سکتے ھیں ، بعض اوقات ایسا ھوتا ھے کہ صرف وھم سے ھم ایسے نتائج پر پہونچ جاتے ھیں جن کا گمان بھی نہیں ھوتا ، توھم بھی ایک قسم کا انتقال ذھن ھے - لیکن خلاف قیاس اور خلاف معمول مگر کبھی مطابق واقعہ بھی ثابت ھوتا ھے ، عقلا کے وھم میں اس قسم کی رسائی زیادہ ھوتی ھے - اور سفہا میں کم - واھمہ کی غایت نظام ذھنیت میں یہی ھے کہ بعض اوقات جب اور کوئی صورت قیاس نہیں ، ھوتی تو صرف توھم سے ھمارا ذھن جزئیات سے کلیات کی طرف متبادر ھوتا ھے -

علم و ادراک

سوچنا ، سمجھنے کے لئے یا تعقل ، علم و ادراک کے لئے ھوتا ھے ، تفصیل گذشتہ سے ھمارا یہی مدعا تھا کہ آپ کو معلوم ھو جائے کہ ھمارے

تفکر و تعقل کے اصول و ذرائع کیا ہیں تاکہ حاصل تعقل یعنی مسئلہ علم و ادراک کے سمجھنے میں سہولت ہو -

جیسا کہ ہم احساس ظاہری کے بیان میں کہہ چکے ہیں ، ادراک کی ابتدا تو احساس کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے مثلاً ہم ایک شے کو دیکھتے ہیں، یہ احساس ظاہری ہے ، ہمارے نفس کو اِس احساس کا امتیاز ہوتا ہے یہ وقوف نفس یا شعور ہے اور یہی ادراک کی ابتدا یا ابتدائی ادراک ہے -

اس طرح کسی شے کے ابتدائی ادراک میں صرف ہم کو کسی شے کے ہونے ہی کا علم ہوتا ہے یعنی اتنا ہی معلوم ہوتا کہ کوئی شے ہمارے پیش نظر ہے ، لیکن وہ کیا ہے ، درخت ہے یا پتھر یا کوئی اور شے ؟ اس کے لئے ہم اپنی قوت حافظہ و انتقال ذہن سے کام لیتے ہیں ، اپنے تمام معلومات پر نظر ڈالتے ہیں ، اُس شے کی دوسری اشیاء سے مشابہت و مغائرت معلوم کرتے ہیں ، جب کہیں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا شے ہے -

یہی علم و ادراک کے درجات ارتقائی ہیں کہ پہلے ہمیں کسی شے کے ہونے کا یعنی اُس کے وجود ظاہری کا علم ہوتا ہے پھر اُس کی مشابہت و مغائرت کا بعدہ اُس کے افعال و خواص و منافع و مضار اور دیگر متعلقات کا -

فرض کیجئے ، ایک شخص پہلی ہی مرتبہ گراموفون دیکھتا ہے ، ابتداءً اُسے اتنا ہی علم ہوتا ہے کہ یہ کوئی شے ہے ، لیکن کیا ہے ؟ اس کے لئے وہ اپنے معلومات پر نظر ڈالتا ہے ، گراموفون کو (باعتبار اس کی ساخت کے) ایک مشین کے مشابہ پاتا ہے لیکن مغائرت و تفریق اس قدر پاتا ہے کہ اور مشینیں گاتی نہیں ہیں ، مگر گراموفون سے گانے کی آواز بھی آتی ہے ، وہ اس تفریق کو گراموفون کا امتیاز خاص قرار دیتا ہے ، اور اس طرح ، اُسے ایک گانے والی مشین سمجھتا ہے -

اس لئے کسی شے کے متعلق یہ حکم لگانا کہ وہ کیا شے ہے ، بغیر اس تعرف و تعریف کے نہیں ہو سکتا کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ وہ شے (جس کے اشیا متعلق ہم کچھہ معلوم کرنا چاہتے ہیں) کس حد تک دوسری چیزوں سے مشترک اور کہاں تک غیر مشترک ہے -

اسی لئے ، ہم جب کسی شے کی تعریف کرتے ہیں یعنی یہ بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہے ، تو اول یہ بتاتے ہیں کہ وہ کن چیزوں سے مشابہ ہے پھر یہ کہ اُس کا امتیاز کیا ہے - اس کو واضح طور پر سمجھنے کے لئے حسب ذیل مثالوں پر غور کیجئے -

١ ــ گلاب کا پھول -
٢ ــ چمبیلی کا پھول -
٣ ــ نرگس کا پھول -
٤ ــ آم کا درخت -
٥ ــ سیب کا درخت -
٦ ــ جامن کا درخت -
٧ ــ دھاڑنے والا ، حیوان (شیر) -
٨ ــ ہنہنانے والا ، حیوان (گھوڑا) -
٩ ــ بھونکنے والا ، حیوان (کتا) -

ہر مثال کا جزو اول یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کوئی تخصیص و امتیاز بھی رکھتا ہے اور جزو دویم سے اشتراک بھی اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جزو دویم ، جس سے جزو اول اشتراک رکھتا ہے ، جزو اول کے مقابلے میں ، ایک غیر مخصوص و عام شے ہے پھول ، درخت ، حیوان ایسی چیزوں کے نام ہیں کہ ان کے ذیل میں بڑی گنجایش ہے ، پھول صدہا قسم کے ہوتے ہیں ،

درخت ہزارہا طرح کے اور یہی حال حیوان کا ہے - اس لئے ایسی چیزوں کو اجناس کہتے ہیں ، جنس کی تعریف یہی ہے کہ اُس سے متعدد انواع متعلق ہوں اور وہ ہر نوع متعلق کی ماہیت کا جزو عام ہو جیسا کہ امثلہ مذکورہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ پھول ، درخت اور حیوان کا تعلق متعدد انواع سے ہے - امثلہ مذکور کے اجزائے اول ، یعنی گلاب ، چمبیلی ، نرگس وغیرہ یہ سب انواع ہیں - نوع اُسے کہتے ہیں ، جو کسی جنس سے بھی کوئی تعلق رکھتی ہو اور کوئی خصوصیت نوعی بھی رکھتی ہو ؛ گلاب چمبیلی نرگس وغیرہ کے وہ نوعی امتیازات جن کی وجہ سے وہ اِن ناموں سے موسوم ہیں ، ان انواع کی نوعی خصوصیتیں ہی ہیں -

اجناس و انواع ہمیشہ اپنے افراد کے ضمن میں پائے جاتے ہیں ؛ تنہا نہ کہیں مطلق حیوان کو پا سکتے ہیں نہ مطلق انسان کو مگر جو تعلق جنس کا اپنے افراد سے ہوتا ہے وہ نوع کا اپنے افراد سے نہیں ہوتا ، جنس اپنے افراد کی ماہیت کلی نہیں ہوتی مگر نوع اپنے افراد کی ماہیت کلی یا عین ماہیت ہوتی ہے ، اس کو یوں سمجھئے کہ حیوان جنس ہے ، اور یہ جنس اپنے افراد ، زید و عمر میں بھی پائی جاتی ہے اور ان کے سوا اور چیزوں میں بھی - اس لئے کہا گیا ہے کہ جنس اپنے افراد کی ماہیت کلی نہیں ہوتی یعنی کسی شے کی جنس معلوم ہونے کے بعد بھی اُس کی پوری ماہیت نہیں معلوم ہوتی ، اس لئے ضرورت ہوتی ہے کہ اُس کی نوعیت بھی معلوم کی جائے ؛ نوعیت معلوم ہو جانے کے بعد البتہ کسی شے کی مکمل ماہیت معلوم ہو جاتی ہے - اس لئے کہ نوع کے بعد کوئی تفریق باقی نہیں رہتی - انسان نوع ہے اور یہ نوع اپنے افراد ، زید عمر وغیرہ کی عین ماہیت ہے ، کوئی انسان ہو ، کہیں رہتا ہو ، کسی خد و خال کا ہو مگر انسان ہی سمجھا جائےگا - اسی لئے اشیاء کی تعریف میں صرف

جنسیت و نوعیت ھی کا لحاظ رکھا جاتا ھے [١] - یہ معلوم کرنا کہ ایک شے، کن چیزوں سے مشابہ ھے یا کن چیزوں سے اور کوئی تعلق و اشتراک رکھتی ھے - یہ تلاش جنس ھے، اور اس امر کا تعین کرنا کہ ایک شے اپنی نوعیت کے اعتبار سے کیا خصوصیت رکھتی ھے، یہ تعین نوعیت ھے -

مسئلہ ادراک میں، بحث جنس و نوع کی اھمیت کا انداز کرنے کے لئے آپ اپنی زبان پر نظر ڈالئے، اس لئے کہ زبان ھی سمجھنے، سمجھانے کا ایک واحد ذریعہ ھے، آپ کسی کو کوئی بات سمجھاتے ھیں تو الفاظ و کلمات ھی کے ذریعہ سے سمجھاتے ھیں اور جب خود غور کرتے ھیں تو بھی زبان سے قطع نظر نہیں کر سکتے -

زبان ھی ذریعۂ تفہم و تفہیم ھے

ھر زبان میں، اشخاص و افراد و اشیا کے بعض مخصوص ناموں کو چھوڑ کر، زیادہ تر ایسے ھی نام ملینگے، جو کسی جنس و نوع پر دلالت کرتے ھوں - مثلاً، دریا، پہاڑ، آباد، ویران، صحرا، بستی، عمارت وغیرہ - اس کی یہی وجہ ھے کہ سمجھنے، سمجھانے میں بغیر اس کے کام ھی نہیں چلتا کہ اشیاء کے عام تصورات ھمارے پیش نظر ھوں مثلاً اگر ھمیں زید و عمر سے بحث نہ ھو اور مطلق انسان ھی کے متعلق کچھہ کہنا ھو تو بغیر اِس لفظ انسان کے اور بغیر اس لفظ کے عام مفہوم کے کام ھی نہیں چل سکتا - یہ لفظ انسان ایک ایسا لفظ ھے کہ جس کے تحت میں دنیا بھر کے انسان داخل ھیں، اب اگر ھم مطلق انسان کے متعلق کوئی مفید

---

[١] جنس قریب و فصل قریب کے علم سے کسی شے کی کامل تعریف معلوم ھو جاتی ھے مگر بہت سی چیزیں ایسی ھیں کہ ھمیں اُن کی فصل نہیں معلوم صرف جنس ھی معلوم ھے مثلاً سیکڑوں چرند، پرند ھیں جن کی فصل ھمیں نہیں، صرف جنس قریب یعنی چرند پرند معلوم ھے، اس سے آگے بجز اس کے کہ اعراض عامہ کا استقصاء کیا جائے اور کوئی صورت نہیں مثلاً طوطے کی تعریف یوں کریں کہ ایک پرند ھے، سکھانے سے آدمی کی سی بولی بولنے لگتا ھے چونچ ٹیڑھی ھوتی ھے وغیرہ یہ تمام جزئیات از قبیل اعراض عام ھیں -

و مضر بات معلوم کر سکتے ہیں تو وہ ہر فرد انسان کے لئے یکساں مضر و مفید ہوگی مثلاً جہل کہ خلاف انسانیت ہے ، ہر انسان کے لئے مضر ہے ۔

اسی لئے اگر کسی زبان سے اسمائے اجناس و انواع کو نکال دیا جائے تو وہ زبان اس قابل ہی نہ رہے کہ اُس کے ذریعہ سے ہم کسی کو کچھہ سمجھا سکیں یا خود کچھہ سمجھہ سکیں -

تصورات کلیہ

لفظ انسان یا حیوان سے جو مفہوم ہم سمجھتے ہیں ، اُسے تصور کلیہ کہتے ہیں ، اور وہ اس لئے کہتے ہیں کہ اِن الفاظ سے مراد کوئی خاص شخص یا کوئی خاص فرد نہیں ہوتا ، کسی جنس و نوع کے تمام افراد مراد ہوتے ہیں یہی کلیت ان الفاظ میں ہے اور یہی وسعت مفہوم ، تعقل کی روح رواں ہے -

بچے کا ذہن جس طرح رفتہ رفتہ ترقی کرتا ہے اسی طرح ، مطلق انسانی ذہنیت میں بھی ارتقا ہوا ہے - انسان نے جب اِس دنیا میں آنکھہ کھولی تو اُس کو سابقہ جن چیزوں سے پڑا وہ یہی گرد و پیش کی چیزیں تھیں اور اِن چیزوں کا علم اُسے جزئی تصورات ہی کی حیثیت سے ہوا ، جس طرح بچہ جب کچھہ ہوش سنبھالتا ہے اور اپنی گرد و پیش گھر آنگن کی چیزوں کو دیکھتا ہے ، تو ہر شے کا ایک شخصی و جزئی تصور اُس کے ذہن میں قائم ہوتا ہے ، مثلاً جب اُسے کسی پرند کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کبوتر ہے یا اور کسی جانور کو کہ یہ بلی ہے ، یہ کتا ہے ، یا کسی شخص کو کہ یہ آدمی ہے ، تو ان ناموں سے وہ خاص وہی افراد مراد لیتا ہے جو اُس کے پیش نظر ہوتے ہیں ، ابتداءً اُسے یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ان ناموں میں دوسرے ہم نوع افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں - اسی طرح انسانی ذہنیت شروع میں ایک بچے کی سی ذہنیت ، لوح سادہ

کی مثال تھی ، لیکن جیسے جیسے اُس کا مشاہدہ وسیع ہوتا گیا ویسے ویسے اُس کے جزئی تصورات میں بھی عمومیت پیدا ہوتی گئی ، اب اُس کے ذہن میں افراد و اشخاص سے گذر کر نوعی تصورات بھی پیدا ہونے لگے ، پہلے تو وہ اپنے آپ ہی کو ، آدمی سمجھتا تھا مگر جب اس نے اپنے ہم شکل و فطرت اور اشخاص بھی دیکھے تو سب کو اپنی طرح آدمی سمجھنے لگا ، اس طرح ایک نوعی تصور اُس کے ذہن میں پیدا ہو گیا جس کو لفظ انسان سے اُس نے تعبیر کیا - اِس کے بعد جب کچھہ اور مشاہدہ میں ترقی ہوئی تو تمام انسانوں میں اُس نے کچھہ خصوصیتیں حیوانوں کی سی بھی دیکھیں یعنی تمام انسانوں کو بعض خصایص کے اعتبار سے شریک حیوانیت پایا ، اس اشتراک کو دیکھکر ایک جنسی تصور ، مطلق حیوان کا اُس کے ذہن میں پیدا ہو گیا جو نوعی تصور سے زیادہ وسیع تھا یعنی تصور حیوان میں تمام انسان اور انسانوں کے سوا تمام جانداروں کي گنجائش تهي ، پھر اور مشاہدہ میں ترقي ہوئی تو حیوان کو بلحاظ نشو و نما ، شریک نباتات پایا - اس طرح ایک جسم نامی بلا قید کا تصور عام پیدا ہوا ، جو تصور نوعی یعنی انسان کے تصور اور تصور جنس قریب یعنی حیوان کے تصور سے بھي زیادہ وسعت رکھتا تھا ، تصور جسم نامي میں تمام انواع کے درخت ، تمام حیوان و انسان باعتبار نشو و نمائے جسمي شریک ہو گئے ، اس کے بعد تصورات میں اور وسعت پیدا ہوئي تو مطلق جسم کا ایک تصور پیدا ہوا ، جس کے تحت میں انسان و غیر انسان یعني تمام جسم رکھنے والی چیزیں جمادات تک آ گئے ، تصورات کی انتہائی وسعت دیکھئے کہ تصور جسم کے بعد تصور موجود یا تصور وجود نے ہر ممکن واجب شے کو اپنے تحت میں لے لیا -

دیکھئے ارتقائے ذہنیت کے ساتھہ کس طرح تصورات میں بھي وسعت

پیدا ہوتی گئی ، ابتدائی ہوتی ھے اپنی ذات سے یعنی پہلے افراد و اشخاص کے جزئی تصورات پیدا ہوتے ہیں ، پھر نوعی تصورات اس کے بعد جنس و قریب و بعید کے تصورات اور بالاخر جنس الاجناس یعنی تصور موجود یا وجود پر تصورات کی وسعتوں کا دائرہ منتہی ہوتا ھے - اس طرح انسان کو اپنا تعلق تمام اشیائے کائنات سے اور کائنات کی ہر شے کا تعلق دوسری شے سے معلوم ہو گیا -

مزید برآں ، تصورات کلیہ کی یہ ترقی اور ذہن انسانی کی یہ تعمیم پسندی کچھ اشیاء کی ذات ہی تک محدود نہ رہی ، بلکہ متعلقات اشیائے سے بھی متعلق ہوئی اور اس طرح ، کم و کیف کا اندازہ کرنے والے الفاظ حرارت ، برودت ، ملاحت ، مصیبت ، جسامت وغیرہ پیدا ہو گئے ، پھر واقعات و حالات کی ہمرنگی کے مشاہدے سے بعض الفاظ تو ایجابی طور پر پیدا ہو گئے مثلاً ہونا یا ہستی اور بعض سلبی طور پر بالمقابل پیدا ہوئے - مثلاً نہ ہونا یا نیستی ، یہاں تک تو بسیط تصورات کلی تھے اب انہیں بسیط تصورات کلی سے مرکب تصورات کلی کی بنیاد پڑتی ھے مثلاً عالم متغیر ھے ، نفس غیر متغیر ھے ، ان میں سے ہر قضیہ دو تصوروں [۱] سے مرکب ھے ، اور ہر تصور ان میں سے کلی ھے ، یعنی "عالم متغیر ھے" میں 'عالم' اور 'متغیر' دونوں کلی تصور ہیں - اسی طرح "نفس غیر متغیر ھے" میں نفس اور غیر متغیر ھے ہو دو تصورات کلی ہیں - اسی طرح بکثرت مرکب تصورات کلی جنہیں قضایا کہتے [۲] ہیں ، قایم ہوئے اور قائم ہوتے رہتے ہیں -

---

[۱] منطقیین کے نزدیک ، قضیہ (تصدیق) تین تصوروں سے مرکب ہوتا ھے مثلاً نفس کو فنا نہیں ، اس میں نفس اور فنا دو تصور ہوئے اور تیسرا تصور اس نسبت کا ھے جو سلبی طور پر فنا کو نفس سے ھے مگر ہمارے نزدیک یہ ہر دو تصورات کی نسبت باہمی خود کوئی تصور کلی نہیں -

[۲] قضایا کی تقسیم کئی اعتبارات سے کی گئی ھے ، مگر یہ موقع ان تفصیلات کا نہیں -

لیکن ذھن کا کمال یہ ھے کہ ھم روزمرہ بات چیت میں ، ان لفظوں کو جو تصورات کلی پر دلالت کرتے ھیں ، بے تکان استعمال کرتے رھتے ھیں مگر کبھی غلط فہمی نہیں ھوتی ، کبھی لفظ انسان سے کوئی خاص انسان مراد نہیں لیتے اور نہ کبھی لفظ حیوان سے کوئی خاص حیوان مراد لیتے ھیں -

یہاں یہ قابل غور ھے کہ ذھن انسانی نے رفتہ رفتہ کیا کیا کام کیا ، ھمارے علم کی ابتدا ھوتی ھے احساس ظاھری سے پھر اشخاص و افراد کا علم ھوتا ھے یعنی جزئی تصورات ذھن میں پیدا ھوتے ھیں پھر اشیاء کی باھمی اشتراک و اختلاف کا علم ھوتا ھے اور اس طرح نوعی و جنسی تصورات پیدا ھوتے ھیں پھر ان بسیط کلی تصورات کی آمیزش سے مرکب کلی تصورات (قضایا) کا آغاز ھوتا ھے اور باالاخر یہی قضیئے ، مقدمات قیاس کا کام دیتے ھیں اور اس طرح دلیل و حجت [۱] کی ابتدا ھوتی ھے - یہ ھے کچھہ

---

[۱] دلیل کے لفظی معنی رھنما کے ھیں اور اصطلاحاً ثبوت کو کہتے ھیں اور اس کی دو قسمیں ھیں - انی و لمی ، علت سے معلول پر استدلال کرنا استدلال لمی ھے اور معلول سے علت پر استدلال کرنے کو استدلال انی کہتے ھیں اور اصول استدلال کو قیاس کہتے ھیں اور قیاس کی چار قسمیں ھیں - اقترانی - استثنائی - حملی اور شرطی (تفصیل کے لئے فن منطق کی طرف رجوع کرنا چاھئے) مثلاً ھمارا دعوی ھے کہ " اس راہ سے کوئی گذرا ھے " اس دعوے پر دلیل ، یہ قیاس ھے کہ اس راہ میں نقش قدم ھیں ، جب کسی راہ سے کوئی گذرا ھے تو نقش قدم بن جاتے ھیں - نتیجہ - اس راہ سے بھی کوئی گذرا ھے - (یہ استدلال انی کی مثال ھے)

اصل یہ ھے کہ یہ سب کارنامے بھی قوت انتقال ذھن کے ھیں کہ ھمارا ذھن جزئیات سے ھمرنگ و مشابہ امور کی طرف منتقل ھوتا ھے ، کوئی تصور جزئی ھو یا کوئی مشاھدہ غرضکہ کوئی جزئیہ ھو اُس سے متعلق تمام امور معلوم ھمارے سامنے آجاتے ھیں اور اُنھیں سے ھم کوئی اصول کلی قایم کر لیتے ھیں اور اُسی اصول کلی کے ماتحت پیش نظر جزئیہ پر غور کرتے ھیں - اوپر والی مثال ھی پر غور کیجئے ، جب ھم راستے میں نقش قدم دیکھتے ھیں تو ھمارا ذھن ، اس قسم کے تمام پچھلے تجربات کو سامنے لے آتا ھے ، اس طرح اس

تفصیل تصورات کلیہ کی ، اس سے آپ نے یہ اندازہ تو کر لیا ھوگا کہ تصورات کلیہ کی بحث مسئلۂ علم و ادراک میں کس قدر اہم ھے اور تفہم و تفہیم میں کہاں تک ان تصورات کی احتیاج ھے -

---

قیاس کی بنیاد ھمارے تجربات سابقہ ھی ھیں اور یہ مقدمہ کلی کہ جب کوئی کسی راہ سے گذرتا ھے تو نقش قدم بن جاتے ھیں تمام‌تر مشاھدۂ گذشتہ ھی سے ماخوذ ھے -

اس صورت میں ، اگر ھمارے تجربات و مشاھدات وسیع نہ ھوں‌گے تو یقیناً ھمارے تمام وہ قیاسات بھی جن کی بنیاد ھمارے ناقص مشاھدات و تجربات پر ھرگی ، قیاسات مع‌الفارق ھی ھوں‌گی ، مثلاً ایک شخص کا یہ دعویٰ ھے کہ ، ایک دیوانے میں آثار صحت پائے جاتے ھیں اور وہ عنقریب تندرست ھو جائےگا ، اس دعویٰ پر دلیل ، اُس کا یہ قیاس ھے ، یہ دیوانہ متبسم ھے ، ھر دیوانے کا تبسم ، آثار صحت کی دلیل ھے ، نتیجہ ، اس دیوانے کا تبسم بھی آثار صحت کی دلیل ھے ترتیب مقدمات اصولی ھے ، مگر نتیجہ کس قدر مضحک ھے - بات یہی ھے کہ قیاسات کے مقدمات ھمارے تجربات و مشاھدات ھی سے ماخوذ ھوتے ھیں ، اگر ھمارے مشاھدات صحیح ھیں تو مقدمات بھی صحیح ھوں گے ارر قیاس سے نتیجہ
صحیح نتائج تک بھی ٹھیک نکلےگا ورنہ نتائج تمام‌تر مغالطات ھی پر مبنی ھوں‌گے -
پہونچنا استقرائے اس لئے اصل شے مسئلہ ادراک میں استقرائے تام ھے اور صحیح
تام پر منحصر ھے نتائج تک پہونچنا استقرائے کامل ھی پر منحصر ھے -

استقراء جزئی مشاھدات سے ، استنباط کلیات نوا میں فطرت کو کہتے ھیں - مثلاً جب ھم نے اکثر اجسام پر حرارت کا یہ اثر دیکھا کہ حرارت کا اثر جسامت کو پھیلا دیتا ھے تو اس مشاھدہ سے یہ کلیہ اخذ کیا کہ حرارت جسامت کو پھیلا دیتی ھے ، یہی استقرائے تام ھے - اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں ھزاروں چیزیں ھیں ، انسان نے ھر شے پر تو حرارت کا یہ اثر نہیں دیکھا - اس لئے یہ کلیہ استقرائے تام پر مبنی نہیں - اگر استقرائے تام کے یہی معنی لئے جائیں کہ ھر کلی (جو استقراء کے ذریعہ سے ماخوذ ھو) جب اپنے تمام افراد پر بر بنائے مشاھدہ صادق آجائے تو وہ کلی سمجھا جائے اور جب جملہ افراد پر کسی کلی کو منطبق کر کے دیکھ لیں تو اس استقراء کو استقرائے کامل سمجھیں تو یہ ناممکن ، نہ ھم اس طرح کوئی کلیہ قایم کر سکتے ھیں - نہ ھمارا استقراء استقرائے تام سمجھا جا سکتا ھے - استقراء اسی حد تک ممکن ھے کہ کسی کلیہ کو اس کے اکثر افراد پر منطبق کر کے دیکھ لیا جائے اگر منطبق ھوتا ھو تو وہ کلیہ صحیح ھے ، اور یہی استقراء استقرائے تام و کامل ھے ورنہ ناقص -

حدود علم اور ادراک

فی الحقیقت کیا علم و ادراک کی انتہا یہی ھے کہ انسان نے اشیائے معلومہ کی درجہ‌بندي کر لي یعنی اجناس و انواع و اصناف و افراد کا تعین کر لیا یا بعض چیزوں کے افعال و خواص و منافع و مضار معلوم کرلئے ؟

ممکن ھے کہ کبھي انسان کائنات کی ھر شے کے متعلق بھی یہ معلوم کر سکے کہ ھر شے قیام حیات کے لئے کہاں تک مفید و مضر ھے اور تمام اشیاء کے مخفی افعال و خواص تجربہ و مشاھدہ میں آ جائیں ، لیکن کیا یہ کامیابی ، علم و ادراک کی انتہا کی مرادف ھوگي ؟

کیا تمام سعی ادراک کا حاصل یہي ھے کہ انسان قیام حیات کو اصل مقصود قرار دیکر ھر شے کو اسی نقطۂ نظر سے دیکھنا چاھتا ھے کہ وہ کہاں تک معاون قیام حیات ھے ؟

خالص علمي جد و جہد کا تو اقتضا یہ ھرگز نہیں کہ اُس کی بنا صرف اغراض فانی پر ھو- یہ وسیع کائنات ، جو ھمارے چاروں طرف ھے ، اس کے متعلق ھمیں کیا معلوم ھے ، کیا ھم یہ جانتے ھیں کہ اس کی علت غائي کیا ھے ؟

کائنات کي وسعتوں کو اگر آپ ناقابل قیاس سمجھتے ھیں تو ھم اپنے سوال کو نہایت محدود کئے دیتے ھیں اور صرف یہ پوچھتے ھیں کہ کیا آپ کو اپنے وجود کی علت غائی بھي معلوم ھے ؟

اگر آپ یہ کہیں کہ ھمارے وجود کی علت غائي ادراک یا حقیقت شناسی ھے تو اس صورت میں ھم ایک سوال آپ سے اور کرینگے ، وہ یہ کہ آپ اپنے مقصد وجود میں کہاں تک کامیاب ھیں ؟

ہمارے تمام استدلالی علوم و مشاہدات کی بنیاد ، صرف محسوسات ہی پر ہے یعنی محسوسات ہی سے بذریعہ مشاہدہ و قیاس بعض نتائج ہم اخذ کر سکیے ہیں ، یہ ہے سرمایہ ہمارے علوم کا ، لیکن یہ کم مائیگی ، علم و ادراک کی انتہا تو نہیں ۔

یہ سچ ہے کہ علم و ادراک کی کوئي انتہا نہیں ، لیکن ہمارے ذرائع علم اگر یہی ذرائع علم ہیں تو ضرور محدود ہیں ، کیا ہم اپنے اِنہیں حواسوں اور انہیں قوائے فکر کی رہنمائی میں ، تمام مراحل ادراک کو طے کر سکتے ہیں ؟

کیا ہمیں اپنے مبدا و معاد کا کوئی یقینی علم ہے ؟ مانا کہ بعض قیاسات اس کے مؤید ہیں کہ نفس ایک جوہر ناقابل فنا ہے ، لیکن کیا انہیں ذرائع سے ہم کسی طرح یہ بھی سمجھہ سکتے ہیں کہ بعد انقلاب موت ، ہماری حقیقت ذات ، کس ہیت نفسی سے باقی رہتی ہے ؟

یہ اور اس قسم کے کسی ایک سوال کا جواب بھی ہمارے مشاہدہ و قیاس کے بس کی بات نہیں ، اور کیوں کر ہو کہ نہ تو اس قسم کے امور محسوسات میں داخل ہیں نہ بطور نتیجہ محسوسات سے اخذ ہو سکتے ہیں ۔

ایک طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذرائع علم قطعی محدود ہیں ، دوسري طرف ہم کو یہ بھي یقین ہے کہ ہمارا مقصد حیات ، علم یعنی کاوش لا محدود ہے ۔ ذرائع علم کو محدود اور علم کو لا محدود دیکھکر ہمیں حیرت ہوتی ہے ۔

نظام فطرت میں یہ اصول ، ہر جگہ نظر آتا ہے کہ جو شے ، جس غرض کے لئے ہے اُس غرض کے حصول کے لئے اُس کا نظام ، نہایت موزوں

اور غایت درجہ مکمل ھے مثلاً آلات سماعت و بصارت ھی کو دیکھئے کہ ان کا مقصود نظام جسمانی میں سننا اور دیکھنا ھے، اب ان کی ساخت پر غور کیجئے کہ اس قسم کے افعال انجام دینے کے لئے کس قدر مکمل اور موزوں ھے، اسی طرح کائنات کی ھر شے، کائنات میں جس غرض کے لئے ھے، اُس مقصد کے حصول کے لئے اس کا نظام قطعی موزوں اور مکمل ھے -

اس نظام فطرت کو دیکھکر ھمیں اس بد گمانی کی جرأت نہیں ھوتی کہ ھم یہ سمجھیں کہ ھمارا فطری مقصد حیات تو ادراک یعنی ایک غیر محدود کاوش و تلاش حقیقت ھے اور ھمارا نظام تعقل قطعی محدود اور اس مقصد کے حصول کے لئے ناکافی و غیر مکمل ھے -

حسن ظن کہتا ھے کہ ظاھری حواسوں اور قوائے ذھنیہ کے سوا بھی کوئی ذریعہ، حقائق ماورائے طبیعات تک پھونچنے کا فطری طور پر نفس کو حاصل ھوگا - تاکہ انسان اپنے مقصد حیات میں کامیاب ھو سکے [۱] -

نفس انسانی و علم

ھر شے کا نشو و نما اُنھیں چیزوں سے متعلق ھوتا ھے جو اُس شے کے وظائف فطری میں داخل ھوتی ھیں مثلاً ھمارا جسم کہ اپنے نشو و نما میں مناسب حال ماحول اور موافق غذا و آب و ھوا کا طالب ھے، یہی چیزیں اگر جسم کو حاصل ھوتی رھتی ھیں تو وہ اپنی صحت میں

---

[۱] ظاھری حواسوں اور قوائے ذھنیہ کے علاوہ، خود نفس میں ایک استعداد ادراک حقائق ھے، جس کا ارتقا ارتقائے نفس انسانی کے ساتھ ساتھ ھوتا ھے، اس کے ذریعہ سے ھم ان حقائق تک پہونچ سکتے ھیں جن کا ادراک حواسوں کے ذریعہ سے نہیں ھوسکتا - (دیکھئے فصل ارتقائے نفس)

ترقی کرتا رهتا ہے ورنہ روز بروز تحلیل هوتا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک دن مردہ هو جاتا ہے -

یہ کچھ جسمانیات هي پر منحصر نہیں بعینہ هي یہی اصول ذهنیات میں بهي جاری و ساری ہے - نفس انسانی کا جو کچھ امتیاز ہے وہ علم ادراک هی سے ہے ' اس لئے علم و ادراک هی کا نفس انسانی تلاشی و مقتضی ہے ' اس صورت میں وہ جس قدر اپنے مقتضائے فطری کے حصول میں کامیاب هوتا جاتا ہے یعنی جس حد تک فائز ادراک حقیقت هو جاتا ہے اُتنا هی اپنے امتیاز و استعداد میں ترقی کرتا جاتا ہے اور یہي نفس انسانی کا نشو و نما یا نشو و ارتقا ہے - برخلاف اس کے جس قدر اپنے مقتضائے فطری سے دور هوتا جاتا ہے یعنی جس حد تک مبتلائے محرومی و جہل هوتا جاتا ہے اتنا هی باعتبار اپنی استعداد فطری کے ضعیف و مردہ هوتا جاتا ہے اور یہی نفس انساني کا انحطاط یا تنزل ہے -

علم اگر علم ہے یعنی انعکاس حقیقت ہے تو کوئی محدود شے نہیں ' اس لئے نفس انسانی کے ترقی کے مدارج کی بهی کوئی انتہا نہیں ' بر خلاف اس کے اگر جہل منافی علم و ادراک ہے تو جہل بهی کوئی محدود شے نہ هونا چاهئے اور اس لئے نفس انسانی کی پستی کی بهی کوئی انتہا نہ هونا چاهئے اور اسی غیر محدود پستي کو زبان مذهب میں درجۂ اسفل السافلین کہا گیا ہے یعنی پست‌ترین درجہ اور یہ واقعہ ہے کہ شرافت و رذالت انسانیت کے اس قدر مدارج کثیر افراد انساني میں پائے جاتے هیں کہ عروج و نزول یا ترقی و انحطاط کے حدود متعین نہیں کئے جا سکتے غرضکہ نفس انساني کا نشو و ارتقا

یا عروج و کمال تمام‌تر علم و ادراک کے عروج و کمال پر مبنی ہے اور انحطاط یا تنزل کا واحد سبب جہالت ہی ہے -

اخلاقی نقطۂ نظر سے دیکھئے تو بھی تمام بد اخلاقیوں کی بنیاد ، غلط تعلیم و تربیت یعنی جہل و عمای تعالیم جہل کے اثر سے بعض نوعی احساسات نفس کا ضعیف و مردہ ہو جانا ہے ، اس صورت میں ، جب اصل سبب مرض کا تعین ہو چکا ہے ، علاج بالضد اگر کوئی ہے تو صرف صحیح تعلیم و تربیت ہی ہے ، اسی اصول کار فطری و حکمت عملی سے احساسات ضعیف دوبارہ قوی ہو سکتے ہیں اور اس طرح ایک بد اخلاق شخص پھر انسان بن سکتا ہے -

یہ ہے نفس و علم کا تعلق باہمی اور یہ ہے نفس انسانی پر علم کا اثر ، اور کیوں نہ ہو ، علم کیا ہے ؟ مقتضائے نفس انسانی ہے، مدعائے فطرت انسانی ہے ، مثلاً

انعکاس و تجلی حقیقت ہے ، ایک کیف انجلائی ہے امتیازاً روح حیات انسانیت ہے ، یعنی اس کی وجہ سے انسان انسان ہے، اسی لئے تکملۂ انسانیت کا راز بھی صرف علم اور حقیقی علم ہی میں مضمر ہے -

خلاصۂ بحث تعقل

یہ تو آپ کے پیش نظر ہوگا کہ بحث تعقل کی ابتدا ، تعین افعال و قوائے نفس کے بعد ہوئی یعنی اول اس امر کا تعین کیا گیا کہ تعقل نفس کا ایک فعل ارادی ہے - پھر تشکیل عمل تعقل کے لئے ، نظام ذہنیت و اصول و ذرائع تعقل پر ایک تفصیلی نظر ڈالی گئی بعدہ حاصل تعقل یعنی مسئلۂ علم و ادراک سے بحث کی گئی اسی سلسلہ

میں حدود علم و ادراک کے مسئلہ پر بھی غور کیا گیا اور بالآخر نفس و علم کے تعلقات باھمی کی توضیح پر اس بحث کا اختتام ھوتا ھے -

اِرادہ

حیات شاعرہ میں

تعقل کے بعد نفس انسانی کی دوسری قوت ' قوت ارادی ھے ' ارادہ ' اعمال ذھنی میں ' تعقل پر مشروط اور اُس سے موخر ھوتا ھے ' وجہ یہ ھے کہ ھر ارادہ کسی غرض کے ماتحت ھوتا ھے اور اغراض کی بنا تفہم و ادراک پر ھے ' اس کی مزید تفصیل یہ ھے -

محرکات ارادہ اغراض

ارادہ ایک حرکت نفسی ھے

آپ اپنے تمام اعمال ارادی پر نظر ڈال جائیے ' یہی پائینگے یا تو آپ جلب منفعت کے لئے کوئی ارادہ کرتے ھیں یا دفع مضرت کے لئے اور احساسات نفس کی بحث میں آپ یہ معلوم کر چکے ھیں کہ مضر و مفید کی تمیز و تفریق ' پسندیدگی و ناپسندیدگی کے اعتبار سے ' احساسات نفس ھی سے متعلق ھے یعنی اِن امور کا ادراک ' احساسات نفس ھی کے ذریعہ سے ھوتا ھے ' اب جو شے ھم کو اچھی معلوم ھوتی ھے اس کو حاصل کرنا چاھتے ھیں اور جو بری معلوم ھوتی ھے اُس کو دفع کرنا چاھتے ھیں یا اُس سے گریز کرنا چاھتے ھیں ' اِس طرح ارادہ کی بنا ' اغراض پر اور اغراض کی ادراک پر ھوتی ھے - اِس سے آپ یہ تو سمجھہ ھی گئے ھونگے کہ اغراض ھی محرکات ارادہ ھوتے ھیں - اب رھا یہ امر کہ ارادہ فی نفسہ ھے کیا ' سو اِس کا شعور ھمیں براہ راست ھوتا ھے کہ ھمارا ارادہ ' ھماری ذات یا ھماری انانیت کی ایک حرکت نفسی ھے جو بے غرض و غایت نہیں ھوتی -

چونکہ بنائے ارادہ ' اغراض پر ھوتی ھے ' اس لئے اغراض کی تفصیل

بھی یہاں ضروری تھی مگر ھم نے بہ مصلحت اِس کو ایک دوسرے موقع کے لئے اُٹھا رکھا ھے [۱] -

حیات طبیعی

یہاں تک افعال حیات شاعرہ کی تفصیل و توضیح تھی ' اب ھم حیات غیر شاعرہ یا حیات طبیعي کے افعال کی تشریح کی طرف متوجہ ہوتے ھیں - حیات غیر شاعرہ یا حیات طبیعي کے افعال کی مرکز و مصدر طبیعت ھے مگر طبیعت کیا ھے ؟ بعض حکمائے اسلام ' مصنفین رسائل اخوان الصفا کی رائے میں ' طبیعت ' ایک قوت نفس کلی ھے جو تمام اجسام بسیط و مرکب یعني عناصر و جماد و نبات و حیوان میں ساری اور ھر جسم مرکب و غیر مرکب (بسیط) کی متحرک و مدبر ھے [۲] -

لیکن ھمارے نزدیک ' جیسا کہ ھم بحث افعال نفس میں کہہ چکے ھیں ' طبیعت قوت نفس نہیں بلکہ نفس کي وہ متعین صورت ھے ' جس کی تحدید ' تفریق انانیت سے ھوتی ھے ' نفس ھی اُن غیر مخصوص افعال کے متحرک ھونے کے اعتبار سے جن کا تعلق نہ صرف انسانی حیات غیر شاعرہ سے ھے بلکہ بقدر قابلیت انواع ' ھر نوع کائنات سے ھے ' بالمقابل انانیت ' طبیعت کہلاتا ھے ' اِس طرح نفس ھی متحرک و مدبر اجسام بسیط و مرکب ھے -

نفس کے وہ افعال جن کا تعلق انسانی حیات غیر شاعرہ یا حیات اعمال تغذیہ و تنمیہ طبیعی سے ھے ' تغذیہ ' تنمیہ اور تولید مثل ھیں - تغذیہ ' و تولید مثل جملہ اُن اعمال جذب غذا و دفع فضول ' تنفس و دوران خون وغیرہ پر مشتمل ھے ' جن کا ماحصل تشکیل و تکمیل و بقا و قیام

---

[۱] دیکھئے مبادیات اخلاق -

[۲] دیکھئے رسائل اخوان الصفا جلد دوم

نظام جسمانیت ھے ، تنمیه ، اعمال نشو و نما پر اور تولید مثل ، اُن اعمال طبیعي پر مشتمل ھے ، جو ذریعۂ افزائش نسل ھوتے ھیں -

استقرار حمل کے بعد ھی سے مادۂ حیوانی (پروٹوپلازم) میں وہ انقلاب شروع ھو جاتے ھیں جن سے جلین کے نظام جسمانی کی تشکیل و تکمیل ھوتی ھے ، مگر اِن جزئیات کی تفصیل علم افعال اعضا سے متعلق ھے ، اِس لئے اِس بحث کا چھیڑنا یہاں مناسب نہیں معلوم ھوتا -

قوائے ثانوی

نظام حیات طبیعي میں ، بعض ثانوی قوتیں [ا] بھی پائی جاتی ھیں ، جو افعال طبیعی میں آلۂ کار طبیعت کی حیثیت رکھتی ھیں اور چونکہ اِن قوتوں کو نظام جسمانی میں ایک خاص اھمیت حاصل ھے ، بغیر اِن کے نظام حیات طبیعی قائم ھی نہیں ھو سکتا اِس لئے کچھ اجمالی تذکرہ اِن ثانوی و آلۂ کار قوتوں کا اِس فصل میں بے محل نہ ھوگا -

حرارت عزیزی اور روح حیوانی یا حرارت مخفی اور حرارت ظاھری

ثانوی قوت ، ایک تو حرارت غریزی ھے جو نشو و نمائے جسم میں آلۂ کار طبیعت ھے اور امتزاج عناصر سے پیدا ھوتی ھے اور مادۂ جسم انسانی میں حرارت مخفی کی حیثیت رکھتي ھے اور دوسری روح حیوانی یا حرارت ظاھری ھے جو تمام حرکات ارادی و طبیعی میں معاون ھوتی ھے - اِس حرارت ظاھری کے (جس کو روح حیوانی کہتے ھیں) پیدا ھونے کی صورت یہ ھے کہ جس طرح کسی شے کے عمل احتراق سے جو آمیزش آکسیجن کے بعد شروع ھوتا ھے ایک شعلہ پیدا ھوتا ھے ، اِسی طرح اجزائے خون کی کیفیت اشتعال (جو اجزائے خون میں حرارت غریزي کے اثر سے ھوتی ھے) اور آکسیجن کے امتزاج

[ا] چونکہ یہ قوتیں ، طبیعت کی ذاتی قوتیں نہیں ، ترکیب جسمانی سے پیدا ھوتی ھیں ، اس لئے اِن کا شمار قوائے ذاتی کے بالمقابل ، قوائے ثانوی میں کیا گیا -

سے شعلہ کے بجائے یہ حرارت جو ایک طرح کی قوت ہے پیدا ہوتی ہے ، یہ قوت جنین میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اُس کا نظام شرائین واحد و مکمل ہو جاتا ہے اور قلب جنین میں استعداد حرکت انقباضی و انبساطی پیدا ہو جاتی ہے ۔ ابتدائے حرکت قلب یوں ہوتی ہے کہ پہلے کچھ بھڑکتا ہوا خون قلب میں داخل ہوتا ہے پھر اُس کی حدت کے اثر سے قلب میں ایک حرکت انقباضی پیدا ہوتی ہے جو مقتضی ہوتی ہے آکسیجن کی ، اِس طرح عمل تنفس بہ تبیعت حرکت انقباضی و انبساطی قلب شروع ہوتا ہے ، جب آکسیجن قلب تک پہونچ جاتی ہے تو خون کی کیفیت اشتعال سے مل کر باعث تولید روح حیوانی (حرارت ظاہری) و تفریح قلب ہوتی ہے ، اب قلب میں ایک حرکت انبساطی پیدا ہوتی ہے اور اسی حرکت کے ساتھ وہ فاضل ہوا ، جس میں سے آکسیجن جذب و صرف اشتعال ہو چکی ہے ، دفع ہوتی ہے ، اِسی کو سانس کا باہر جانا کہتے ہیں اور یہی نفس کی آمد و شد اور عمل تنفس ہے اور اسی نظام حرکت قلب و تنفس سے دوران خون کا تعلق ہے ۔

قلب کی حرکت

عمل تنفس و دوران خون

یہ ہے طبیعت کی اُن آلۂ کار قوتوں کا اجمالی تذکرہ جو نہ صرف معاون اعمال حیات غیر شاعرہ ہیں بلکہ بالواسطہ معاون اعمال حیات شاعرہ بھی ہیں ۔

باب سوم

متعلقات نفس اخلاق

و

مبادیات اخلاق

اعمال ارادی ہی کی بنا پر کسی کو بے رحم اور کسی کو رحم دل کہا جاتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان کے معرف اُس کے ارادی اعمال ہی ہوتے ہیں - دیکھنا یہ ہے کہ اختلاف اعمال کے اسباب کیا ہیں ، کیوں ایک شخص بے رحم اور دوسرا رحم‌دل ہوتا ہے ؟

عمل کی ابتدا ، ارادے کی انتہا ہوتی ہے اور یہ ہم ارادے کے بیان میں کہہ چکے کہ محرکات ارادہ ، اغراض ہی ہوتے ہیں ، اس صورت یہ سمجھہ لینا زیادہ دشوار نہیں کہ اختلاف اعمال کے اسباب ، اختلافات اغراض و مقاصد ہی میں مضمر ہو سکتے ہیں -

لیکن ہمارے اغراض و مقاصد کی حقیقت کیا ہے ؟ اس کو معلوم کرنے کے لئے کوئی غرض لے لیجئے - زید نے ہمارا کوئی نقصان کیا ہے ، اب ہم اس کے خلاف چارہ‌جوئی کرتے ہیں ، ظاہر ہے کہ اس فعل سے ہماری غرض ” انتقام “ ہے اور بنیاد اس غرض کی جذبہ غضب پر ہے - اسی طرح ہمارے تمام اغراض و مقاصد کی بنیاد ، ہمارے جذبات ہی پر ہوتی ہے اور تمام اغراض و مقاصد ، جذبات ہی سے پیدا ہوتے ہیں -

ماہیت جذبات لیکن جذبات کیا ہیں ؟

احساسات نفس کي بحث ميں هم کهه چکے هيں که علاوه ظاهري حواسوں کے ، نفس ميں کچهه احساسات اور بهي هيں اور انهيں سے خوشگوار و ناگوار کی تميز و تفريق وابسته هے يعني يه تميز احساسات نفس هی سے متعلق هے که بعض امور سے هم کو شرم آتی هے ، بعض سے غصه ، بعض چيزوں سے خوف معلوم هوتا هے اور بعض سے محبت هوتی هے - يه شرم ، غصه ، خوف اور محبت کيا هے ؟ يه وهی تاثرات هيں جو احساسات نفس کے ذريعه سے خود نفس هی ميں پيدا هوتے هيں اور يهی تاثرات ، جذبات هيں -

جس محسوس کا جيسا اثر ، احساسات نفس پر پڑتا هے اس کے مناسب کوئی جذبه نفس ميں پيدا هوتا هے - مثلاً جب هم ديکهتے هيں که هماری کوئی چيز ناحق هم سے چهيني جا رهی هے تو هميں غصه آتا هے ، پهر ديکهتے هيں که ڈاکووں کی مسلح جماعت عقب ميں هے ، اب خوف پيدا هوتا هے ، اتنے ميں کوئی شخص غيرت دلانے والے الفاظ استعمال کرتا هے جن کو سن کر خوف تو دور هو جاتا هے اور شرم آ جاتی هے ، ڈاکووں کے ظالمانه رويه کو ديکهکر ، نفرت پيدا هوتی هے اور جب انهيں ڈاکووں ميں سے کوئي هماری حمايت کرتا هے تو اُس سے نفرت کے بجاے اُنس پيدا هوتا هے - ديکهئے کس طرح محسوسات کے اختلاف سے جذبات ميں بهی اختلاف هوتا گيا - حقيقت ميں جذبات کا اختلاف ، تمامتر محسوسات نفس هی کے اختلاف پر مبني هے - ليکن بعض اوقات ايک هی محسوس کا اثر دو انسانوں ميں مختلف جذبات پيدا کرتا هے مثلاً زيد ، عمر کی خوشحالی سے خوش هوتا هے مگر خالد ناخوش ، اس کا سبب احساسات کا اختلاف هوتا هے اس کي صراحت بحث احساسات نفس ميں هو چکی هے - وهيں آپ يه بهی معلوم کر چکے هيں که احساسات نفس بسيط ،

جزبات بسيط مرکب

بھی ہوتے ہیں اور مرکب بھی، نوعی و صنفی بھی ہوتے ہیں اور شخصی بھی، اس لئے جذبات بھی جو احساسات نفس ہی کے ذریعہ سے نفس میں پیدا ہوتے ہیں، بسیط بھی ہوتے ہیں اور مرکب بھی، نوعی و صنفی بھی ہوتے ہیں اور شخصی بھی - جن جذبات کی بنیاد بسیط احساسات نفس پر ہوتی ہے وہ بسیط ہوتے ہیں اور جو مرکب پر مبنی ہوتے ہیں وہ مرکب ہوتے ہیں - مثلاً حسد ایک جذبہ ہے مگر بنیاد اس کی ایک شخصی اور مرکب احساس پر ہے اس لئے حسد ایک مرکب جذبہ ہے، برخلاف اس کے رشک بھی ایک جذبہ ہے مگر بسیط و فطری کہ بنیاد اس کی ایک بسیط و فطری احساس پر ہے - لیکن ہر جذبہ چاہے وہ بسیط ہو یا مرکب یہ امتیاز اس کے ساتھہ ضرور ہوتا ہے کہ اس کے ساتھہ ایک کیفیت انقباض یا انبساط نفس میں ضروری ہوتی ہے - یعنی کوئی جذبہ ایسا نہیں ہوتا کہ اُس کے ساتھہ نفس میں کوئی کیفیت انقباض و انبساط نہ ہوتی ہو - اس لئے ہم کہتے ہیں کہ تمام جذبات اپنی نوعیت کے اعتبار سے دو ہی قسم کے ہوتے ہیں انقباض آمیز یا انبساط آمیز - مثلاً جب جذبۂ محبت نفس میں ہوتا ہے تو اُس کے ساتھہ ہی ایک انبساط بھی نفس میں ہوتا ہے اور جب جذبۂ غیرت نفس میں ہوتا تو اس کے ساتھہ ایک کیفیت انقباض بھی نفس میں ہوتی ہے غرضکہ جذبات یا تو موجب انبساط ہوتے ہیں یا موجب انقباض، یہی انواع جذبات ہیں -

نوعیت جذبات

نوعیت اغراض

انہیں انواع جذبات سے نوعیت اغراض کا تعین ہوتا ہے یعنی جو محسوسات انقباضی جذبات پیدا کرتے ہیں، نفس ان سے گریز کرنا چاہتا ہے یا اُن کو دفع کرنا چاہتا ہے - اس طرح اغراض کی ایک نوع کا تعین ہوتا ہے یعنی اغراض دفع مضرت - اب رہے وہ محسوسات جو نفس میں انبساطی جذبات پیدا کرتے ہیں ان کو نفس

حاصل کرنا چاهتا هے اس طرح اغراض کی دوسری نوع ، اغراض جلب منفعت کا تعین هوتا هے - یهی انواع اغراض هیں -

یه هے تشریح و تفصیل اغراض و جذبات نفس - اصل سوال یه تها که اختلاف اعمال کے اسباب کیا هیں ، کیوں ایک شخص رحمدل اور دوسرا بے رحم هوتا هے ؟

سبب اختلاف اعمال

احساسات نفس کی بحث میں آپ یه معلوم کر چکے هیں که هر انسان میں تین قسم کے احساسات هوتے هیں ، نوعی صنفی اور شخصی - احساسات نوعی تو هر شخص میں مشترک هوتے هیں اور صنفی اور شخصی مختلف ، اس لئے جذبات بهی جن کی بنا احساسات نفس هی پر هوتی هے - کچهه تو هر شخص کے مشترک هوتے هیں اور کچهه مختلف ، انهیں مختلف جذبات کی وجه سے هر شخص کے اغراض و مقاصد بهی مختلف هوتے هیں اور اختلاف اغراض و مقاصد سبب اختلاف اعمال هوتا هے -

اس طرح اصل سبب ، اختلاف اعمال کا ، اختلاف جذبات هے ، اب اگر کوئی شخص رحمدل هے اور مصیبت‌زده لوگوں کی مدد کرتا هے تو اُس کے اس فعل کی بنا اس کے جذبه نوعی یعنی جذبهٔ همدردی پر هے - برخلاف اس کے اگر کوئی شخص بے رحم هے ، کسی مصیبت‌زده پر اُسے رحم نهیں آتا تو اس کے اس فعل کی بنا خود اس کے جذبه شخصی یعنی جذبهٔ بے رحمی پر هے لیکن اگر کسی شخص سے اتفاقاً کوئی ظالمانه حرکت هو جائے یا کوئی شخص کسی مصیبت‌زده کو کهنے سننے سے کوئی امداد دے دے تو ایسی صورت میں نه اول الذکر ظالم سمجها جا سکتا هے نه آخر الذکر رحم دل ؛ هاں اگر کوئی شخص همیشه بلا فکر و تردد دوسروں سے همدردی کرتا هو تو

وہ ہمدرد انسان سمجھا جا سکتا ہے یا اس کے برخلاف اگر کوئی شخص ہمیشہ بلا فکر و تردد دوسرے پر ظلم کرتا ہو تو وہ ضرور ظالم سمجھا جا سکتا ہے -

ماہیت اخلاق

کوئی فعل ہو اس کے دوام و استمرار سے ایک ملکہ نفس میں پیدا ہو جاتا ہے ' اگر ہم کچھہ دنوں بہ تکلف اپنی ذات پر تکلیف گوارا کر کے اہل حاجت کي امداد کریں تو اس فعل کے دوام و استمرار سے بالآخر نفس میں ایک ملکۂ ایثار پیدا ہو جائیگا اور پھر ہم بلا تکلف ایثار برت سکینگے -- اسي طرح مختلف اعمال کی مداومت سے مختلف ملکات نفس میں پیدا ہو جاتے ہیں - انھیں ملکات نفس کو اخلاق کہتے ہیں ' ہر ملکۂ نفس ایک خلق ہے اور ہر خلق سے کوئی عمل متعلق ہوتا ہے -

اخلاق ملکات نفس ہیں

اعمال کے اختلاف کی بنیاد پڑتی ہے ' اختلاف احساسات سے ' اس طرح کے مختلف احساسات سے مختلف جذبات پیدا ہوتے ہیں اور مختلف جذبات سے مختلف اغراض و مقاصد کی بنیاد پڑتی ہے اور اختلاف اغراض و مقاصد سبب اختلاف اعمال ہوتا ہے پھر مختلف اعمال کی مداومت سے مختلف ملکات (اخلاق) پیدا ہوتے ہیں ' اب اخلاق سے سلسلۂ اعمال اس طرح وابستہ ہو جاتا ہے کہ اعمال کے صدور میں کوئی تکلف و تردد نہیں رہتا ' اس طرح نفس کے اعمال ارادی کا نظام مکمل ہو جاتا ہے -

نوعیت اخلاق

چونکہ اخلاق کي بنیاد بھي در حقیقت جذبات ہی پر ہوتی ہے اِس لئے اخلاق کی تقسیم بھی بجنسہ اُسی طرح ہے جس طرح جذبات کی یعنی اخلاق نوعی بھی ہوتے ہیں صنفی اور شخصی ' بھي جن اخلاق کی بنیاد نوعی جذبات پر ہوتی وہ نوعی اخلاق

ہوتے ہیں اور جن کی بنیاد صنفی اور شخصی جذبات پر ہوتی ہے وہ صنفی اور شخصی اخلاق ہوتے ہیں -

اِسے اِس طرح سمجھئے کہ مطلق اخلاق کی ایک جنس ہے جو اپنے ماتحت انواع سہ گانہ یعنی اخلاق نوعی اور اخلاق صنفی اور شخصی پر مشتمل ہے - اب ان ہر سہ انواع کے ماتحت بعض اصناف اخلاق ہیں اور پھر اصناف کے ماتحت بعض افراد اخلاق ' مثلاً اس تفصیل کی اجمالی تشکیل مندرجہ ذیل ہے جس میں ہر نوع کے بعض اصناف و افراد متعلق کو دکھایا ہے -

تفصیل جنس اخلاق یعنی تقسیم اخلاق

نمبر	اسمائے انواع اخلاق	اسمائے اصناف اخلاق	اسمائے افراد اخلاق
۱	اخلاق نوعی	انانیت ...	خودداری ' خوداعتمادی خودنمائی وغیرہ
		غیرت ...	تمام وہ ملکات جو جذبہ غیرت پر مبنی ہیں
		شجاعت...	عزم ' ثبات ' ہمت ' اقدام وغیرہ
		غضب ...	غصہ ' تحمل (سکبلی سلبی طور پر)
		نفرت ...	تمام وہ ملکات جن سے اظہار نفرت ہوتا ہے

	نمبر	اسمائے انواع اخلاق	اسمائے اصناف اخلاق	اسمائے افراد اخلاق
تقسیم اخلاق	١	اخلاق نوعی	رغبت ...	تمام وہ ملکات جن سے اظهار رغبت هوتا هے
			محبت ...	تمام وہ ملکات جن کي بنا جذبۂ محبت هے
			عداوت ...	تمام وہ ملکات جن سے اظهار عداوت هوتا هے
			خوف ...	هراس ، سراسیمگی ، پریشانی وغیرہ
			مسرت ...	تمام وہ ملکات جو جذبۂ مسرت پر متفرع هیں
			غم ...	تمام وہ ملکات جن سے اظهار غم هوتا هے
			رشک ...	تمام وہ ملکات جو رشک پر متفرع هیں
			شوق علم ...	تمام وہ ملکات جن سے اظهار شوق علم هوتا هے
			همدردي ...	تمام وہ ملکات جن سے اظهار هندردی هوتا هے
			عدل ...	تمام ملکات موید عدالت
			منت پذیری	تمام وہ ملکات جو منت پذیری پر مبنی هیں

	نمبر	اسمائے انواع اخلاق	اسمائے اصناف اخلاق	اسمائے افراد اخلاق
بلحاظ اصناف افراد اخلاق	۲	اخلاق صنفی	قومیت ...	تمام وہ ملکات جن سے قومی جذبات کا اظہار ھوتا ھے
			وطنیت ...	تمام وہ ملکات جن سے جذبۂ وطنیت ھوتا ھے
	۳	اخلاق شخصی	بزدلی ...	تمام وہ ملکات جن سے اظہار بزدلی ھوتا ھے
			ظلم ...	تمام وہ ملکات جو خلاف عدل ھیں
			بے حیائی ...	تمام ملکات منافی غیرت
			تذلل ...	تمام ملکات منافي انانیت
			شخصی خلق رغبت	تمام عادات

یہ ھے اجمالی تشکیل اخلاق کی (یعني ملکات نفس انساني کی) جن کي تفصیل بجائے خود ایک ایسے وسیع باب کی محتاج ھے جس کی گنجائش اِس مختصر میں نہیں -

عادات

تفصیل اخلاق (ملکات نفس انسانی) میں یہ آچکا ھے کہ نوع اخلاق شخصی کے ماتحت ایک صنف شخصی خلق رغبت بھی ھے اور اس صنف کے ماتحت جس قدر ملکات ھیں وہ سب عادات کہلاتے ھیں - اِس کی مزید توضیح یہ ھے، احساسات نفس کی بحث میں آپ یہ معلوم کر چکے ھیں کہ منجملہ دیگر نوعی و فطری احساسات کے ایک حاسہ رغبت بھی ھے اور یہ حاسہ تمام انسانوں میں مشترک

اور اسي کی بنا پر انسان مرغوبات کا امتیاز کرتا ھے - انسان بہت سی چیزوں کو پسند کرتا ھے ، بہت سی چیزوں سے اُسے رغبت ھوتی ھے مگر هر شے مرغوب عام نہیں ھوتی ، بعض چیزیں مرغوب عام ھوتی ھیں اور بعض مرغوب خاص ، زید کو متعدد چیزوں سے رغبت ھے ، جن میں کچھہ تو ایسی ھیں جو اور لوگوں کو بھی مرغوب ھیں اور کچھہ ایسی بھی ھیں جو صرف زید ھی کو مرغوب ھیں - اول‌الذکر مرغوبات عامہ ھیں اور آخرالذکر مرغوبات خاصہ -

اب یہ قابل لحاظ ھے کہ مرغوبات میں یہ تفریق و تخصیص نتیجہ ھوتی ھے ، تخصیص حالات گرد و پیش کا ، هر شخص ایک مخصوص ماحول میں زندگی بسر کرتا ھے اور اسی تخصیص سے بعض مخصوص و شخصی احساسات کی بنیاد پڑتی ھے - اس طرح شخصی حاسۂ رغبت پیدا ھوتا ھے ، جب شخصی حاسۂ رغبت پیدا ھو جاتا ھے ، تو شخصی حاسہ رغبت سے شخصي جذبۂ رغبت اور پھر شخصی جذبۂ رغبت سے بعض مخصوص اعمال متعلق ھو جاتے ھیں اور اب اُنھیں مخصوص اعمال کی مداومت سے بعض مخصوص ملکات پیدا ھوتے ھیں ، انھیں مخصوص ملکات کو جن کی بنافی‌الحقیقت شخصی حاسۂ رغبت ھی پر ھوتی ھے ، عادات کہا جاتا ھے ، عادات بھی ملکات نفس ھی ھیں مگر چونکہ بنیاد ان کی فطری حاسۂ رغبت کے بجائے شخصی و غیر فطري حاسۂ رغبت پر ھوتی ھے اس لئے امتیازاً ان کو عادات کہا جاتا ھے -

مثلاً زید افیون سے یا قماربازی سے رغبت رکھتا ھے اور اس رغبت کی بنا زید کا شخصي حاسہ رغبت ھے جو پیدا ھوا ھے ، حالات گرد و پیش کی تخصیص سے ، اب اس شخصی احساس سے ، ایک شخصي جذبہ اور شخصی جذبہ سے ایک مخصوص عمل متعلق ھوتا ھے جس کو

هم افیون کھانا یا جوا کھیلنا کہتے ھیں ، اب ان اعمال کی مداومت سے بعض مخصوص ملکات عمل زید کے نفس میں پیدا ھو جاتے ھیں جن کو عادت قماربازی و افیون‌نوشی کہا جاتا ھے -

اس سے آپ اتنا تو سمجھہ گئے ھونگے کہ عادات و اخلاق میں کیا اشتراک ھے اور کیا اختلاف ھے اور عادات کیونکر پیدا ھوتے ھیں -

معیار اخلاق

ماهیت اخلاق معلوم ھونے کے بعد ایک نہایت اھم سوال یہ پیدا ھوتا ھے کہ ھم کس بنا پر کسی خلق کو مستحسن و غیر مستحسن سمجھہ سکتے ھیں ، اخلاقیات میں تفریق رذائل و فضائل اخلاق کا معیار کیا ھے ؟

بے شک اگر ھم یہ معلوم کر سکتے ھیں کہ مقصد حیات انسانی کیا ھے تو ھمیں یہ سمجھنا کچھہ بھی دشوار نہیں کہ ھماری زندگی کے مقصد ماتحت ھمارے اعمال کیا ھونا چاھئیں ، اس طرح ان اعمال کو جو موافق مقصد حیات ھوں اُن اعمال سے جو مخالف مقصد حیات ھوں جدا کیا جا سکتا ھے اور چونکہ اخلاق کا تعلق اعمال اور اعمال کا تعلق اخلاق سے ھوتا ھے ، اس لئے اخلاق کی تقسیم بھی اسی نقطۂ نظر سے اخلاق ، موافق مقصد حیات اور اخلاق ، مخالف مقصد حیات میں بآسانی ھو سکتی ھے -

مگر مقصد حیات کیوں‌کر معلوم ھو ، اصول یہ ھے کہ کسی شے کی غایت کا علم موقوف ھوتا ھے اُس کے اجزائے ترکیبی کے علم پر ، اس لئے مقصد حیات کی تلاش سے پہلے ھم کو یہ معلوم کر لینا ضروری ھے کہ ھماری حیات کے اجزائے ترکیبی کیا ھیں -

غور کرنے سے معلوم ھوتا ھے کہ ھماری حیات کی ترکیب معنوی دو جزوں سے ھے، پہلا جزو تو حیوانیت ھے، جس کے اعمال تغذیہ و تنمیہ و تولید مثل وغیرہ کا حاصل، سعی قیام حیات حیوانی ھے اور دوسرا جزو، انسانیت ھے جس کا امتیاز خاص، ادراک حقیقت ھے۔ پہلا جزو ھماری حیات کا، ایک جزو عام و مشترک جزو ھے یعنی شریک، حیوانیت دیگر انواع حیوانات بھی ھیں مگر دوسرا جزو ھماری حیات کا یعنی انسانیت، غیر مشترک و مخصوص ھے، اِسی سے یہ معلوم ھوتا ھے کہ ھماری حیات کا امتیاز اسی دوسرے جزو یعنی انسانیت ھی سے ھے۔ اب اِن ھر دو اجزائے حیات کے تعین اور اُن کے قطری مطالبات و مدارج کی اھمیت معلوم ھونے کے بعد مقصد حیات انسانی یہ معلوم ھوتا ھے کہ انسان باقتضاے حیوانیت سعی قیام حیات حیوانی کرے مگر انسانیت کے ساتھہ ساتھہ، زندگی عزیز ھو مگر ادراک حقیقت کے لئے۔ چونکہ امتیاز انسانیت، ادراک حق و حقیقت ھی سے اس لئے انسان کی تمام سعی و جد و جہد حیات اسی، احساس کے ماتحت ھونا چاھئیں کہ اس کا قدم جادۂ حقیقت سے کہیں ڈگ نہ جائے، اُس کے اعمال مخالف حق و حقیقت نہ ھو جائیں، ھر عمل میں لحاظ و پاس حق و حقوق رھے۔ غرضکہ اُس کے اخلاق کی بنیاد، احساس حق و حقوق اور اعمال کی حقیقی اخلاق پر ھونا چاھئے، اس لئے کہ مقصد حیات انسانی، قیام حیات، بغرض حق‌شناسی ھے۔

مقصد حیات قیام حیات بغرض حق شناسی

یہی وہ معیار ھے جو رذائل و فضائل اخلاق میں تفریق کرتا ھے۔ بلا شبہ وہ اخلاق جو موافق مقصد حیات ھوں یعنی جو پہلے مخالف حق شناسی اور پھر خلاف قیام حیات نہ ھوں، قابل قبول ھیں، مستحسن ھیں اور جو اِس کے خلاف ھوں وہ یقیناً قابل ترک و مذموم ھیں۔

ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ اگر حق‌شناسی ہی پر حصول فضیلت اخلاق حسنہ مبنی ہے تو اِس سعی میں کامیابی معلوم ، اس لئے کہ یہ شے کائنات علم میں جس قدر نایاب ہے محتاج بیان نہیں ، ممکن ہے کہ ارتقائے علم کے آخری مرتبہ پر پہونچ کر کوئی ذہنیت حق و حقیقت تک پہونچ جاتی ہو مگر ہر کہ و مہ کا یہ رتبہ نہیں ؟

مانا کہ حقیقت تک رسائی آسان نہیں ، نہ سہی مگر یہ دشواری نظریات ہی تک محدود ہے ، عملی زندگی میں حق‌شناسی یعنی حقوق کا احساس ہرگز کسی کاوش اور کسی اعلیٰ درسی تعلیم کا محتاج نہیں ، البتہ ، ایک ضمیرروشن ضرور چاہتا ہے ، اِس کی تائید میں ہم ایسی تاریخی ہستیوں کو پیش کر سکتے ہیں جو کسی اکتسابی علم کی شرمندۂ احسان تو نہ تھیں مگر اُن کے اخلاق حسنہ آج تک دنیائے اخلاق میں رہنمائے اخلاقین و سبق اموز بصیرت ہیں اور اس کی وجہ بھی ہے کہ اُن کی فطرت ایک ضمیر روشن و درخشاں رکھتی تھی اور ضمیر روشن ہی عملی زندگی میں فارق حق و ناحق ہوتا ہے -

باب چہارم

بعض معارف نفسیات

ارتقائے نفس

سائنس جدید یہ تسلیم کرتی ہے کہ ابتداءً اجزائے دیمیقراطیسی (ناقابل انقسام ذرات مادی) ایک بسیط صورت میں فضائے محیط کی وسعتوں میں متحرک تھے پھر بعض اسباب کے ماتحت اُنہیں کے امتزاج سے کائنات کا آغاز ہوا - یہی ابتدائے نظریۂ ارتقائے مادی ہے -

لیکن ذرات مادی کی صورت اولین کا زوال (جیسا کہ بالتفصیل بحث ماہیت نفس میں کہا جا چکا ہے) اِس امر کا شاہد ہے کہ صورت اولین مادہ بھی حادث تھی اور ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ کوئی امتیاز مادی موجود نہ تھا ، لیکن وہ شے جس کے ساتھہ یہ تمام مادی امتیازات بعد کو قائم ہوئے موجود تھی یعنی ایک جوہر مجردعن المادہ (نفس) موجود تھا اور اعراض نہ تھے -

اب ابتدائے ارتقائے نفس یوں ہوتی ہے کہ نفس سے اعراض اولیٰ کا ظہور ہوتا ہے اعراض اولیٰ کے ظہور سے تعین صورت و جسامت ہوتا ہے مگر اعراض کی وہ اولین صورت جس کو اولین مظہر نفس کہنا چاہئے اجزائے دیمیقراطیسی (ذرات صغار) نہ تھے بلکہ وہ مادۂ لطیف تریں تھا جس کو حکمائے مغرب ایتھر کہتے ہیں اور حکمائے مشرق نے جس کو اثیر افلاک اور آکاش کہا ہے

اولین تعین صورت و جسامت ایتھر ، اثیر ، افلاک ، آکاش -

پھر اُس مادۂ لطیف ترین کے تکاثف سے وہ چھوٹے چھوٹے ذرے ظاہر ہوئے جن کو اجزائے دیمیقراطیسی کہتے ہیں ، اِس کے بعد اجزائے دیمیقراطیسی کے استحالۂ مزاج سے عناصر کا ظہور اور عناصر سے امتزاج نے ثوابت و سیار کا ہیولیٰ مرکب ہوا اور اِس طرح نظام شمسی قائم ہوا پھر اِس سر زمین حوادث پر ، جس پر ہم آباد ہیں موثرات علوی ، (آفتاب کی حرارت اور روشنی (اور متاثرات سفلی ، مرکبات ارضی) کے فعل و انفعال سے سب سے پہلے جمادات کی ترکیب جسمانی کا آغاز ہوا پھر رفتہ رفتہ جمادات سے نباتات اور نباتات سے حیوانات اور حیوانات سے انسان کا ظہور ہوا ، یہ تمام مدارج و مظاہر ارتقائے نفس ہی کے تھے ، اِسی نشو و ارتقا کے متعلق حضرت مولانا جلال الدین رومی اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں -

آمدہ اول بہ اقلیم جماد * از جمادے در نباتے اوفتاد
وز نباتے چوں بہ حیواں اوفتاد * نامدش حال نباتے ہیچ یاد
ہمچنیں اقلیم تا اقلیم رفت * تاشد اکنوں عاقل و دانا و زفت

جزئیات ارتقا ہمارے پیش نظر نہ سہی ، لیکن نوعیت ارتقا پر نظر کرنے سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نفس کی روش ارتقا کیا ہے - اجسام مرکبہ کو لیجئے ، ابتدا ہوتی ہے جمادات سے ، پھر جمادات میں نمو کا اضافہ ہوتا ہے اور اس طرح نباتات کا ظہور ہوتا ہے ، اب نباتات : یعنی جسم نامی میں ، احساس و حرکت ارادی کا اضافہ ہوتا ہے اور اس طرح تشکیل حیوانیت ہوتی ہے ، بالاخر جسم نامی ، حساس ، متحرک بالارادہ یعنی حیوان میں نطق ، (قوت ادراک) کا اضافہ ہوتا ہے اور انسان عرصۂ شہود میں موجود ہوتا ہے - پہلے درجہ کا امتیاز صرف جسمانیت تھا ، جسمانیت میں نمو کا اضافہ ہوا تو نباتات ظاہر ہوئے ، نباتات کا امتیاز نمو تھا ، نمو میں احساس و حرکت کا اضافہ ہوا تو حیوانات ظاہر ہوئے ،

حیوانات کا امتیاز احساس و حرکت ارادی تھا ، اِس احساس و حرکت ارادی میں جب ادراک کا اضافہ ہوا تو انسان کا تعین ہوا - اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر درجہ ماقبل ہی درجہ مابعد کے لئے بنیاد ارتقا ہے -

انسان کا امتیاز ، صرف ادراک ہے ، اس لئے درجہ مابعد کے لئے یہی ادراک بنیاد ارتقا ہے - انسان کے ادراک کی نوعیت پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا ادراک بواسطہ احساسات ہے یعنی ہمارا تمام سرمایۂ علم محسوسات ہی سے ماخوذ ہے -

اس طرح ذریعہ علم کے محدود ہونے سے ، ہمارا علم بھی محدود ہوکر رہ گیا ہے ، اگرچہ علم فی نفسہ کوئی محدود شے نہیں ، لیکن ہم بحالت موجودہ اپنے ذرائع کے حدود سے قدم باہر نہیں رکھہ سکتے ، حقیقت بے پایاں (علم) ہمارے پیش نظر ہے ، مگر اپنی بے پروبالی کو دیکھتے ہیں اور رہ جاتے ہیں ، منزل مقصود سامنے ہے مگر پائے رفتن نہیں ، تڑپ ہے رسائی نہیں ، جستجو ہے ، کامیابی نہیں ، بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں مگر نہیں سمجھہ سکتے ؛ مگر روش ارتقا کہتی ہے کہ یہ نارسائی ، رسائی میں تبدیل ہونے والی ہے ، یہ جستجو کامیاب ہوکر رہیگی ، نفس کے ارتقائے مابعد کے صرف یہی معنی ہیں کہ ہم آئندہ سعی ادراک میں محدود ذرائع ادراک نہ ہونگے ، ادراک ہوگا مگر بلا واسطہ رسائی ہوگی مگر بلا قید - یہ ہے ارتقائے نفس مابعد اور یہ خیالی امید موہوم ہی نہیں ، اصول ارتقا پر نظر ڈالئے ، ترتیب روش ارتقا ہی سے اِس کی تائید ہوتی ہے - ہر درجۂ ماقبل میں ترقی مابعد کے آثار ابتدائی پائے جاتے ہیں مثلاً ادراک کے ابتدائی آثار حیوانیت ہی سے نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں ، حیوانات میں تصورات جزیہ کی استعداد پائی جاتی ہے ، پھر درجۂ مابعد (اِنسانیت) میں یہ استعداد ، تصورات کلیہ ، قیاس و

استدلال تک ترقی کرتی ھے ' اِسی طرح اِس درجۂ انسانیت میں ترقی مابعد یعنی ادراک بلا واسطہ کے آثار ابتدائی بھی پائے جاتے ھیں -

ادراک بلا واسطہ

کسی حقیقت کا دفعۃً بغیر غور و فکر علم میں آجانا جس کو حدس ' القا ' کشف و الہام ' مختلف ناموں سے موسوم کیا جاتا ھے ایک ایسی حقیقت ھے جس کی تائید بکثرت شواھد سے ھوتی ھے ' یہی ابتدائی آثار ادراک بلا واسطہ (بصیرت نفس) کے ھیں جو ھر شخص کامل‌الفطرت میں علیٰ فرق مراتب پائے جاتے ھیں ' ترقی‌یافتہ نفوس انسانی میں جنھوں نے نسبتاً امتیاز انسانیت میں کوئی ارتقائی امتیاز حاصل کر لیا ھے یہ استعداد زیادہ ھوتی ھے اور دوسرے افراد میں کم مگر ھوتی ھے ھر کامل‌الفطرت انسان میں ضرور -

حیات مابعد

ایک سوال یہاں یہ ھوتا ھے کہ یہ استعداد کب درجۂ تکمیل کو پہونچیگی ؟ اصول ارتقا کو پیش نظر رکھہ کر اِس کا جواب یہی ھے کہ حیات مابعد یعنی درجہ مابعد میں - حقیقت میں حیات مابعد نام ھے اُس ارتقائی زندگی کا جو درجۂ موجودہ کے بعد تکملۂ انسانیت یعنی تکمیل بصیرت و کشف حجاب کا مرتبہ ھے -

آج ' اِس حیات میں جن کا احساس ' محسوسات کے سوا اور کسی حقیقت ماورائے محسوسات کا معترف نہیں کل حیات مابعد میں کشف حجاب سے اُن کی آنکھیں کھلینگی اور ارتقائے بصیرت اپنے اِس احساس کی متشکل ذلت کو بصد شرم و ندامت نمایاں دیکھینگے - کوئی شک نہیں کہ ارتقائے بصیرت سے انسان ایک نئی کائنات میں ھوگا اور ھر شخص کی کائنات مابعد (ارتقائے بصیرت سے) اُس کے نفس کے احساسات موجود کا نتیجۂ مابعد ھوگی ' لیکن کیونکر ؟ اس مسئلہ کی تفصیل چونکہ اس

رسالہ میں خلاف موضوع ہوگی ' اس لئے اِسے ایک دوسرے رسالے کے لئے اُٹھا رکھتے ہیں جس کا نام (اگر توفیق تصنیف خدائے قادر نے دی) حیات مابعد ہوگا - اُسی میں اس مسئلہ کی توضیح و تفصیل ہوگی کہ حیات موجودہ کس طرح حیات مابعد کے لئے بنیاد اساسی ہو سکتی ہے اور ترقی بصیرت نفس کے موجودہ احساسات کا نتیجۂ مابعد کیوں کر ظاہر ہوگا -

انسان اور کائنات

تو بمعنی جان جملہ عالمے * ہر در عالم خرد توئی بنگر دمے

— از حضرت مولانا فریدالدین عطار

اگر انسان کو اُس کی حقیقت یعنی نفس مطلق کے دیکھا جائے اور تفریق تعین انانیت کو نظرانداز کر دیا جائے تو انسان وہ جوہر متجلی ہے جس کے اعراض کا مجموعہ تمام کائنات مظاہر و شیون ہے ' ذرے سے آفتاب تک ایسی نہیں جو انسان کا مظہر نہ ہو یا جس میں انسان ظاہر نہ ہو ۔ لیکن اگر اعتبار تفریق تعین انانیت کیا جائے تو انسان تمام مظاہر کائنات معلوم میں نفس (نفس مطلق) کا مظہر کامل ہے اس لئے کہ تمام کائنات معلوم بجز ذات انسان مظہر صفات نفس ہے اور امتیاز ذات نفس کا ظہور ' بصورت انانیت ذی شعور ' ذات انسان کے سوا اور کسی مظہر میں نہیں ' اس طرح انسان کا ظاہر یعنی اُس کی جسمانیت مظہر صفات نفس اور اُس کا باطن یعنی اُس کی انانیت مظہر ذات نفس ہے اور اِس طرح انسان نفس کا مظہر کامل ہے -

اِک جرم صغیر آپ کو سمجھا ہے ' مگر تو !
وہ ہے کہ نہاں جس میں ہے اِک عالم اکبر -

یہ ہے فضیلت انسانیت ؛ کہ کائنات معلوم (بجز ذات انساں) ، کائنات انسانی کے مقابلے میں عالم صغیر ہے ، اس لئے کہ صرف مظہر صفات نفس یعنی مجموعۂ اعراض ہے اور کائنات انسانی کہ ذات و صفات دونوں کی مظہر ہے ؛ اِس عالم صغیر کے مقابلے میں کائنات کبیر ہے یہ ہے انسان کا مرتبہ اِس کائنات میں -

اور یہ ہے انسان و کائنات - بایں ہمہ اس مظہر کامل یعنی انسان اور مظہر یعنی نفس میں متعدد امور مابہ‌الامتیاز بھی ہیں مثلاً

(۱) نفس مطلق ، مطلق ہے اور نفس انسانی ، نفس مطلق کی ایک تشکیل مقید -

(۲) انسان کی انانیت اگرچہ ذی عقل و شعور ہے لیکن نفس مطلق کا غیر مقید عقل و شعور کچھہ اور ہے اور انانیت کا مقید عقل و شعور کچھہ اور - ادراک نفس (نفس مطلق) غیر مشروط تعقل اور ادراک انانیت مشروط تعقل ہے اور کیوں نہ ہو کہ شعور انانیت ایک متعین و مخصوص فعل نفس ہے مگر شعور نفس مطلق ، مطلق شعور ہے کوئی فعل نہیں - اور بھی کچھہ امور ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں -

غایت و نہایت

ہر مشین میں متعدد پرزے ہوتے ہیں اور ہر پرزے کی کوئی غایت ہوتی ہے مگر وہ غایت انتہائی نہیں ہوتی - ہر پرزہ چونکہ ایک نظام سے وابستہ ہوتا ہے اِس لئے اُس کے تمام افعال مشین کی غایت انتہائی کے ماتحت ہوتے ہیں - ہر پرزے کی غایت بھی نہیں ہوتی کہ وہ اُن مخصوص افعال ہی کے انجام دینے کے لئے بنایا گیا ہے جو اُس کے نظام کا اقتضا ہیں

بلکہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اس مشین کے مقصد انتہائی کے حصول میں معین و معاون ہوتا ہے جس کے ساتھہ اُس کا تعلق ہے -

کارگاہ ارضی کي حیثیت بھی ایک مشین کی سی ہے اِس میں بکثرت آلے اور متعدد آلہکار قوتیں کام کر رہی ہیں اِس کائنات کی ہر شے ایک آلہ ہے اور ہر قوت آلہ کار ' ہر آلہ کی کوئی علت غائي ہے اور ہر غایت کی کوئی نہایت - عناصر کی غایت ترکیب اجسام ہے ' اس لئیے عناصر سے اجسام مرکب ہوتے ہیں اور ابتداءً جمادات کا ظہور ہوتا ہے - اِس کے بعد غایت موالید پر نظر ڈالئیے ' جمادات کی غایت بقائے نباتات ہونا تھا یوں جمادات سے نباتات کا ظہور ہوتا ہے اور نباتات کی غایت سر و سامان تکملۂ حیوانیت فراہم کرنا تھا ' اِس طرح نباتات سے حیوانات کی بنیاد پڑتی ہے اور حیوانات کی غایت ایک مقصد آخری کے حصول میں معاون ہونا تھا اور وہ مقصد آخری انسانیت ہے -

کسی نظام کا مقصد آخری وہی ہوتا ہے جو اُس کے نظام کے اعمال مجموعی کا حاصل ہو ' اس طرح ماننا پڑیگا کہ تمام کائنات کے وجود کی انتہائی غایت تکملۂ وجود انسانیت ہی تھی -

لیکن انسانیت کی غایت انتہائی کیا ہے ؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ادراک بے پایاں یعنی حقیقت‌شناسي ' یہ ہے غایت و نہایت -

خودی

فلسفۂ الہیات کی تمام کاوش کا خلاصہ صرف یہ سوال ہے کہ "ہم کیا ہیں" اگر یہ عقیدہ وا ہو جائے تو ایک بڑی جنگ کا خاتمہ ہو جائے اور آج ارباب ذوق و وجدان اور اصحاب فکر و نظر میں صلح ہو جائے

فلسفۂ نفس

اصحاب فکر و نظر اس حقیقت تک استقراء قیاس کے ذریعہ سے پہونچنے کی کوشش کرتے ہیں اور ارباب ذوق و وجدان ، بصیرت نفس کے ذریعہ سے ۔ اول الذکر کے نزدیک ذریعہ ادراک صرف تفکر ہے اور آخرالذکر کے نزدیک ایک حد تک تفکر اور اس کے آگے خود بصیرت نفس ہے [۱] ۔

دونوں جماعتوں کی کاوش کا حاصل یہ ہے ، کہ اصحاب فکر و نظر کے نزدیک حقیقت تک رسائی قریباً محال مگر ارباب ذوق و وجدان کے نزدیک ممکن ، اور کیوں نہ ہو کہ فکر و نظر کہتی ہے کہ کائنات خارجی کی حقیقت معلوم ہو جانا حقیقت تک پہونچ جانا ہے ۔ مگر بصیرت نفس کہتی ہے کہ کائنات داخلی یعنی خود اپنی حقیقت کو پہونچ جانا ، حقیقت تک پہونچ جانا ہے ۔ اس لئے فکر و نظر کا راستہ دشوارگذار ہونے کی وجہ سے منزل تک رسائی مشکل ہو گئی اور اصحاب فکر و نظر مایوس ہوکر رسائی محال سمجھنے لگے ۔ برخلاف اس کے مسلک ارباب ذوق و وجدان ایک سیدھا راستہ تھا ۔ اس لئے اس کے راہ کے مسافر نامراد نہیں رہے ۔

من عرف نفسہ فقد عرف ربہ

(جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے خدا کو پہچانا)

چونکہ انسان باعتبار اپنی جسمانیت کے تمام اجسام سے اشتراک رکھتا ہے اس لئے جسم انسانی کی حقیقت تک پہونچ جانا ، مطلق حقیقت جسمانیت تک پہونچ جانا ہے ، اس طرح انسان کی جسمانیت کا علم تمام عالم اجسام کا علم ہے ۔

---

[۱] بصیرت نفس وہ استعداد ادراک ہے جو متعارف ذرائع تعقل کے علاوہ خود نفس انسانی کو حاصل ہے اور یہی ذریعہ ہے ادراک بلا واسطہ ، یعنی حدس ، القا ، کشف و الہام وغیرہ کا ، جیسا کہ ہم " ارتقائے نفس " میں کہہ چکے ہیں ۔

انسان باعتبار اپنے نشو و نما کے تمام نباتات سے اشتراک رکھتا ھے ، اس لئے انسانی جسم کے نشو و نما کی حقیقت کو سمجھ لینا حقیقت نمو تک پہونچ جانا ھے ، اس طرح جسم انسانی کے نشو و نما کا علم تمام عالم نباتات کا عام ھے -

انسان باعتبار اپنے احساس و حرکت ارادی کے تمام حیوانات سے اشتراک رکھتا ھے ، اس لئے انسان کے احساس و حرکت ارادی کی حقیقت کو معلوم کر لینا ، حقیقت احساس و حرکت ارادی کو سمجھ لینا ھے ، اس طرح انسانی احساس و حرکت ارادی کا علم تمام عالم حیوانات کا علم ھے - گویا کہ بلا لحاظ انسانیت ، انسان کے مشترک خصائص کی حقیقت تک پہونچ جانا تمام عالم موالید کی حقیقت کو پہنچ جانا ھے - اس کے بعد بالحاظ انسانیت دیکھئے تو انسان باعتبار اپنے مخصوص امتیاز ، صفت ادراک کے ، مظہر ذات نفس ھے اس لئے انسان کا حقیقت انسانیت تک پہونچ جانا حقیقت نفس تک پہونچ جانا ھے - اس طرح انسان کے ظاھر و باطن کا علم ، تمام کائنات داخلی و خارجی کا علم ھے اور اس طرح علم حقیقت انسان عقدہ کشائے اسرار ھستی ھے -

لیکن حقیقت ذات انسان کیا ھے ؟ صورت متعین نفس ، اور مطلق نفس ؟ ھم قیاس سے تو اتناھی سمجھ سکتے ھیں کہ نفس (نفس مطلق) ایک جوھر مدبر و عاقل ھے اور کائنات مجموعۂ اعراض یہی تعلق نفس مطلق و کائنات ھے ، اس سے آگے قیاس کی رسائی نہیں اور یہی اصل نظریۂ وحدت وجود ھے کہ عقل ، ایک نفس کلی کا امتیاز کرتی ھے اور کائنات کو اُسی کے شیون مختلفہ کا مظہر سمجھتی ھے - لیکن بصیرت نفس و ذوق و وجد کا اِن انکشاف یہ ھے کہ نفس ایک تجلی امر الٰہی ھے مگر خود متجلی نہیں ، یہیں سے ھمارا مذھب ، اس مسئلہ میں مسلک وحدت وجود

(همہ اوست) سے جدا ہوتا ھے اور یہی وہ حقیقت ہے جس کے انکشاف سے انسان میں احساس توحید اور احساس توحید سے احساس عبودیت، رضا و تسلیم اور تمام وہ لطیف و مخصوص احساسات جو احساس توحید پر متفرع ہیں پیدا ہوتے ہیں مگر اِن امور کا یقین کامل قیاس و استدلال کے بجائے بصیرت نفس ہی سے وابستہ ہے، اس لئے ابواب، مابعدالطبیعات کے بجائے ابواب ایمانیات [۱] ہی میں اُن کا تذکرہ مناسب بھی ھے - قیاس و استدلال راہ ادراک حقیقت میں ابتدائی مراحل سہی مگر مرحلہ مقصود نہیں، منزل حقیقت‌شناسی اِن سے بہت آگے ہے -

---

[۱] ایمانیت یعني اُن امور میں جن کا انکشاف (ادراک بلا واسطہ) خود بصیرت نفس هي سے متعلق هے، اهم‌ترین مسئلۂ توحید هے، یہ اور بات هے کہ عقل جس کا انتہائي ادراک، العجز عن الادراک کا اعتراف هے مخالف اعتقاد توحید نہ هو مگر کامل یقین توحید، بصیرت نفس هي سے متعلق هے وجہ یہي هے کہ یہ انکشاف هي حاصل عرفان خدا بصیرت نفس هے، نتیجۂ فکر و تعقل نہیں - بصیرت نفس هي سے اس حقیقت کا کامل انکشاف هوتا هے کہ وہ قادر مطلق، جس کے ارادے نے کائنات معدوم کو خلعت وجود بخشا، وہ قدیم، جس کي قدامت پر تجدد امثال کائنات دلیل مبرهن هے، وہ حکیم جس کي حکمتہائي نامتناهي ہر ترتیب و تنظیم هر جزو و کل، شاهد هے، وہ خالق، جس نے اول، عقل اول (نفس کائنات) کو اپنے ارادے سے هویدا کیا اور پھر تمام کائنات کو تدریجاً عقل اول سے پیدا کیا، وہ وہ خداے بے مثال هے، جس کي بے مثالي هي اُس کي وحدانیت هے - کائنات نہیں هے مگر ائینہ انوار صفات نامتناهي، هم نہیں هیں مگر مظہر تجلي امر الهي، بایں همہ وہ وہ نہیں جو محدود عقل و حواس هو - تحدید حدود و تناهي سے بري، هیئت و جہت سے منزہ - اگرچہ وجدان اُس کے کیف شہود سے سرشار اور چشم بصیرت اُس کے آثار جمال سے پرانوار هے مگر، وہ وہ هے جس کا تکیف و اعتراف ع

شرمندۂ قیاس و خیال و گمان نہیں -

چشم بصیرت سے دیکھو !
نگاہ شوق کے تحیر اور قلب عارف کي خاموش محویت میں کس کي حمد و ثنا هے،
فضائے بسیط کي نامتناهي و متعجب کس کي عظمت و جلال کے تصور میں گم هیں،
سیاروں کا محیرالعقول نظام کس کي تحیرخیز تنظیم کا شاهد هے،
کائنات کے انقلاب پیہم همیں کیا بتاتے هیں،
همارے جذبات همیں کس طرف لے جاتے هیں،
مصیبت میں همیں کون یاد آتا هے،
دل کس کي یاد سے تسکین پاتا هے،
وہ کون هے ؟

ابیات

غیر شرمندۂ دلیل ہوں میں
خود ہی اِک آیت جلیل ہوں میں
کیوں نہ پہچانوں بے دلیل تجھے
قائل اپنا تو بے دلیل ہوں میں
خودشناسی، خدا شناسی ہے
غیر شرمندۂ دلیل ہوں میں
کھوکے گویا رہ حقیقت میں
آپ اپنے لئے دلیل ہوں میں